

حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں اہل بیت رسولؐ کا فیصلہ

مع

بِفِرَانِ قُرْآنِ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ كَبِيمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضرت نَعَامَ جعفر صادق
۳۴ مُعتبر ترین چار بناتِ رسولؐ کا ثبوت

حکمِ تصنیف و تقدیم

حضرت پیر سید محمد بن اقبال شاہ مخارجی صاحب
سجادہ شین آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف



از قلم

خادم حضور محمد فرشق گلزاری (گولڈ میڈل سٹ، ایم اے
(عربی، اسلامیات)

ناشر: دارالتبليغ
آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

S-2

215

2172

١ تقدیم

(یہ تحریر پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوں، قدوةُ الشاکین، زمدةُ العارفین، نقیبِ مسلکِ مجدد الف ثانی، پاسبانِ فیضانِ حضور اعلیٰ حضرت شیرِ ربانی شرقپوری و حضور قبلہ عالم حضور پیر کیلانی رحمۃ اللہ علیہما نے خصوصی طور پر اپنے دستِ مبارک سے لکھ کر اس کتاب کی ابتداء میں شائع کرنے کیلئے عطا فرمائی ہے یہ نورانی تحریر تمام مسلمین بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے وابستگان کیلئے رہنمائی کا سبب ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ -
أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ السَّعِيدِ
وَفُرُقَانِهِ الْحَمِيدِ - لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ طُوْلًا وَلِيَكَ أَعْظَمُ
دَرَجَاتِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدَ وَقَاتَلُوا طُوْلًا
وَكُلُّ ذَقْنٍ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ
ترجمہ: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح کہے سے قبل خرچ اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں

ان سے بڑے ہیں۔ جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ کو تھہارے کاموں کی خبر ہے۔

(پ ۲۶۴ ع، الحدید)

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھنسوں میں تقسیم فرمایا ہے ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کیا اور فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے پہلے گروہ کے برابر نہیں ہو سکتے بلکہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بلند اور بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کیلئے ایک عام اعلان فرمایا جسمیں پہلے پچھلے سب کے سب صحابہ رسول شامل ہیں۔ وہ اعلان ہے۔

كُلًاً وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ط

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

مذکورہ ارشادِ خداوندی سے ثابت ہوا کہ سب صحابہ کرام کے درجات اگرچہ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ انبواء کرام علیہم السلام کی طرح بعض بعض سے افضل ہیں۔ لیکن

جس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ والے صحابی جنتی ہیں۔ اسی طرح کم درجہ والے صحابی بھی جنتی ہیں۔ جب تمام صحابہ کرام جنتی ہیں تو ایمان والوں کیلئے جنتیوں کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا بھی لازم ہے اور جو آدمی جنتیوں پر طعن لعن۔ تبرا بازی کرے اور ان کو منافق غاصب ظالم کہے وہ بفرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ظالم اور لعنتی ہے کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آدمی کسی پاک طیب آدمی پر لعنت کرے۔ وہ لعنت لوٹ کر خود لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔ جب صحابہ کرام بفرمان خدا تعالیٰ جنتی ہیں اور جنتی تو مستحق رحمت ہوتا ہے۔ نہ کہ مستحق لعنت اور جو کسی جنتی کو مومن نہ جانے وہ خود ایمان سے خالی ہے۔ لہذا جو آدمی صحابہ کرام کو لعنتی کہتا ہے وہ خود لعنتی ہے۔ اس حکم میں جس طرح خلفاء راشدین شامل ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اس طرح حضرت طلحہ۔ حضرت زبیر۔ حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ اکثر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کے دروازہ سے بدعت رفض میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے! شانِ صحابہ کا انکار یعنی بدعت رفض خود قرآن پاک کا انکار ہے اور قرآن مجید کا انکار کفر ہے۔ ہاں جس پر خدا تعالیٰ رحم و کرم فرمادے تو اس کو آگاہی ہو جاتی ہے اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے چنانچہ قبلہ عالم حضور والد ماجد صاحب عرس رحمتہ اللہ علیہ کے وصال مبارک کے چند ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک بیلی نے جنگِ صفين میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنگ کرنے کا ذکر کیا تو میں نے بھی نسبی

حمیت کے جذبہ کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ ناپسندیدگی
 کے الفاظ کا اظہار کیا منہ سے الفاظ نکلنے کی دریتی کہ یک لخت طبیعت منقبض ہو گئی اور
 باطن کا سر و رکیف بے کیفی اور بے لذتی کے ساتھ تبدیل ہو گیا اور اسی پر یشانی
 کے عالم میں تو بہ اور استغفار کرنا شروع کیا۔ رات کو جب نیند آئی تو عالمِ رویا میں
 دیکھتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک شریف میں بیٹھا ہوں تو
 رحمۃ عالم، نورِ مجسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ
 کے پیچھے حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں اور ان کے پیچھے
 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
 میں توار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم کے پاس سے گذر کر میرے پاس تشریف لائے اور حضرت امیر معاویہ رضی
 اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے مجھے فرمایا کہ ان کے متعلق تو نے ایسے لفظ کیوں کہے
 ہیں میں نے عرض کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے! پھر آپ نے فرمایا ”تو نے یہ لفظ کیوں
 کہے ہیں؟“ میں نے عرض کیا غلطی ہو گئی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے
 اس کے بعد میں نے تو بہ استغفار کرنی شروع کی چنانچہ اس دوران حضور قبلہ عالم
 والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت بھی نصیب ہوئی۔ تاہم طبیعت کی بے چینی
 دور نہ ہوئی انہی ایام میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ مرشدِ حقانی، حضرت قبلہ شیر
 ربانی، سرکار اعلیٰ حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں میں بھی حاضر ہوں
 چند اور بیلی بھی آپ کے پاس حاضر ہیں سامنے دریا ہے جو کہ کناروں تک بھرا ہوا

ہے۔ حضور قبلہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دریا کس طرح پار کریں گے؟ میں نے عرض کیا حضور میں تیرنا جانتا ہوں آپ میرے کندھے پر سوار ہوں میں تیر کر دریا پار کرلوں گا۔ چنانچہ جناب نے میری درخواست منظور کر لی اور دریا میں اترنے کیلئے جو گذر گاہ بنی ہوئی ہے میں اس میں بیٹھ گیا اور حضرت شیر ربانی سرکار شرقيوری رحمۃ اللہ علیہ اوپھی جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ پر اس طرح سوار ہوئے کہ جناب کا دایاں قدم مبارک میرے سینے اور پیٹ کے دائیں حصہ پر اور جناب کا بایاں قدم مبارک میرے سینے اور پیٹ کے باائیں حصہ پر اور میں نے اپنے ایک ہاتھ سے جناب کو تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تیر رہا ہوں اور جناب نے میرا سر پکڑا ہوا ہے۔ جب نصف دریا کے قریب ہم پہنچے تو حضور قبلہ عالم شیر ربانی نے فرمایا۔ ”لا لیا! سنبھل کر چلنا۔ اب میرا بوجھ بھی تجھ پر ہی ہے“ میں نے عرض کیا جناب کی دعا کی ضرورت ہے پھر کوئی فکر نہیں۔ چنانچہ اسی حال میں دریا عبور کیا ان تمام زیارتوں اور بشارتوں کے باوجود دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ آگاہی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے تھے لہذا یقینی معافی اس وقت ہو گی جب سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے جمال باکمال سے نواز دین گے۔ چنانچہ ایک رات سویا تو قسمت جاگ اٹھی یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شرفِ زیارت سے نوازا اور کافی دیر تک تقریباً آٹھ دس منٹ تک اپنے قلبِ منور والی جانب اپنی بغل مبارک میں لئے پیار اور شفقت فرماتے رہے اور اس طرح بے سکون دل کو سکون اور قرار کی دولت سے مالا مال کیا۔ تب جا

کر مجھے اطمینان ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو معمولی سی نامناسب بات میں نے کی تھی۔ آج اس کی معافی ہو گئی ہے یہاں یہ بات قبل غور ہے کہ حضور مولاؐ کائنات، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیؑ کرم اللہ وجہہ الکریم کا میری راہنمائی اور آگاہی کیلئے اکیلے تشریف لانا ہی کافی تھا لیکن آگاہی کے وقت بھی اور پھر میرے توبہ و استغفار کے بعد بھی حضور پڑو نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے جو میرے لئے رحمت ہی رحمت اور کرم ہی کرم کا سبب ہے اس کے باوجود کئی سال بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حریم طیبین کی حاضری نصیب ہوئی تو پھر بارگاہِ خدا جل وعلا اور بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں معافی کا خواستگار ہوا۔

قارئین! مذکورہ بالا آیت کریمہ میں جن حضرات کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے سیدنا علی المرتضیؑ، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اور حسین بن کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انہی میں شامل ہیں تو ثابت ہوا کہ جب تک کوئی شخص آلی رسول، ازواج رسول اور اصحاب رسول کو جنتی مان کر ان کی تعظیم نہ کرے اور ان سے محبت ایمانی نہ رکھے۔ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا تو ایسے شخص کے ولی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ولی تو مومن ہی ہو سکتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”اے بھائی چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اس لئے اقطاب۔ ابدال۔ اوتاد

کے مقام کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد و اعانت کے سپرد ہے۔ قطب الاقطاب کا سرمبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نیچے ہے قطب مدار انہی کی حمایت و رعایت سے اپنے ضروری کام (امور) سرانجام دیتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امامین کریمین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس مقام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہیں۔

(مکتوباتِ حضرت امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم مکتب ۲۵۱)

معلوم ہوا کہ اقطاب و ابدال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے بنتے ہیں تو جو شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور مرد کا قائل ہی نہ ہو وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی اپنے مکتوباتِ مقدسہ میں کئی مقامات پر ایک حدیث قدسی کا مضمون بیان کرتے ہوئے اولیاء اللہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ **هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيلُهُمْ يَعْنِي اولیاء اللہ ایسی جماعت ہے جن کے پاس بیٹھنے والا آدمی بد بخت نہیں ہو سکتا یہ بات بالکل بحق ہے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اولیاء اللہ کے پاس عقیدت و محبت سے بیٹھے اور جو آدمی نکتہ چینی اور اعتراض کی نیت سے بیٹھے وہ اس میں شامل نہیں:- یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور پر نور نبی کریم رَوَفْ وَرِحْمَمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **مَنْ رَأَنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ**۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا لیکن وہ کافر ہی**

رہا کیونکہ اس نے محبت، عقیدت اور نورِ ایمانی سے سر کار کونہ دیکھا تھا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونُ - ترجمہ "اے محبوب! وہ آپ کی طرف نظر تو کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں،" کیونکہ اگر ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جاتے اور جلوہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کو نصیب ہو جاتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کے پاس صرف عقیدت اور محبت سے بیٹھنے والا ہی فیض حاصل کر سکتا ہے اور وہ یقیناً درج بالا حدیث قدسی کا مصدقہ ہوتا ہے اور کبھی بدجنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کے سچے غلاموں کا ہمیشہ خاتمه بالحیر ہوتا ہے۔

الحمد للہ! آپ میرے اس مضمون کو بار بار غور سے پڑھیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ رافضیت اور خارجیت سے ہم اہل سنت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسی لئے آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف سے بیک وقت شانِ صحابہ میں بھی اور حبِ اہل بیت پاک میں بھی کثیر کتب شائع کی گئیں ہیں زیرِ نظر کتاب بفضلہ تعالیٰ مقبول زمانہ تحریر کی حیثیت سے عوام و خواص میں مقبول ہو چکی ہے اور یہ اس کا چوتھا اور پانچواں ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ یہ تحریر اللہ کریم جل جلالہ کے کرم، اس کے حبیب پاک، امام الانبیاء والمرسلین ﷺ کی خصوصی نظرِ رحمت پاک اور سلسلہ عالیہ کے تمام سائیوں و بزرگانِ دین کی خصوصی توجہات اور دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ اوپر تفصیل سے میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے خواب کا ذکر کیا ہے درحقیقت یہ خواب خود رسول اللہ ﷺ اور

حضور مولا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ایک عظیم
 فیصلہ ہے۔ اس کتاب کا موضوع بھی یہی ہے جس طرح کہ کتاب کے سروق سے
 ظاہر ہے ہمارے حکم سے ہمارے ہی خادم برخوردار محمد رفیق کیلائی مُسلَّمَہ نے یہ کتاب
 لکھی ہے جس میں موضوع سے انصاف کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ اس کا حرف حرف
 میں نے مطالعہ کیا ہے اور سکون قلب و ایمان کا سبب پایا ہے انشاء اللہ نظرِ انصاف
 سے پڑھنے والا ہر آدمی اسے پڑھ کر اپنی آخرت سنوارے گا۔ ہمارا مقصود بھی اس
 سے صرف یہی ہے کہ تبلیغِ اسلام ہو اور وہ بھی بالخصوص عقائدِ حق کی تبلیغ۔ عزیز! سوچنا
 چاہیے کہ اگر پیارے آقا حضور پر نور نبی کریم ﷺ کے متعلق، آپ کے ازواج
 مطہرات کے متعلق کہ خدا تعالیٰ نے جنہیں مونوں کی مائیں ارشاد فرمایا ہے،
 حضور ﷺ کی چار شہزادیوں کے متعلق چار شہزادیاں ہونے کا عقیدہ، حضور ﷺ کے سرال، آپ ﷺ کے
 پاک (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے متعلق ہی تمہارا عقیدہ درست نہ ہو تو کیا پھر بھی
 امید رکھ سکتے ہو کہ روزِ قیامت حضور پُر نور نبی کریم ﷺ کی شفاعت تمہیں
 نصیب ہوگی؟ ہرگز نہیں! برخوردار! روزانہ زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے اور یوں سمجھنا
 چاہیے کہ ہم اپنے سفر کا ایک میل فاصلہ روزانہ طے کر رہے ہیں بالآخر، میں اللہ
 پاک کی اور اس کے رسول پاک ﷺ کی بارگاہ میں ایک روز پیش ہونا ہے۔ وہاں
 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ذرا ہوش کریں! صریح آیاتِ قرآنی کا
 انکار کون سی نفع کی بات ہے؟ اس کتاب کو پڑھ کر کئی ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور اللہ

کے فضل سے، نبی کریم ﷺ کی نظرِ رحمت پاک سے اور میرے سلسلے والے
 سائیوں کا صدقہ یہ ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا مزید تصدیق کے طور پر میں
 نے اپنے ہاتھ سے درج بالا تفصیلی مضمون لکھ کر نئے ایڈیشن کے ساتھ شائع کرنے کا
 حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ اور حضور پُر نور نبی کریم رَوْف و رحیم
 ﷺ کا صدقہ اور آپ کا وسیلہ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور ملک گیر سطح پر اسے
 پھیلانے اور تمام بڑے شہروں کی مساجد، خطباء، کالجزوں اور اسی طرح تمام مرکزی
 اداروں میں مفت تقسیم کرنے کے پروگرام کو عملی جامنہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے
 جس کی ابتداء میں ذاتی طور پر اندوازی شنوں کے شائع کرانے اور مفت تقسیم کرنے
 سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضور نبی کریم ﷺ قبول فرمائیں۔ آمین ثم
 آمین۔

السيد محمد باقر على شاه بخاري نقشبندی مجددی کیلانی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت کیلیانوالہ شریف ضلع گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ وَالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَقْبِلِينَ ☆ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ☆ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ
 اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ ☆ لَا يَسْتُوِيُ
 مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَهُ أَوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ
 الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ قَاتَلُوهُمْ وَكُلُّهُمْ عَذَابٌ وَاللَّهُ أَحْسَنُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ (پ ۲۷؛ ع ۷؛ الحدید) ☆

مضمون لہذا کے اضافے کی ضرورت؟ - حضرات! دارالتبیغ آستانہ

عالية حضرت کیلیانوالہ شریف کی طرف سے شائع شدہ؛ تعارف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؛ مصنفہ مولانا محمد علی مرحوم میں قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ اہل بیت کی روشنی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تفصیلی تعارف موجود ہے۔ مناقب سیدنا امیر معاویہ؛ مصنفہ حافظ شفقات احمد صاحب بھی شائع ہو چکی ہے مزید یہ کہ حق کے متلاشی حضرات کے لئے دو خیم جلدیوں میں؛ دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ؛ مصنفہ مولانا محمد علی مرحوم آف بلاں گنج لاہور میں اتنا علمی اور تحقیقی مواد موجود ہے کہ جوان کتب کو صدق دل سے پڑھے گا۔ بفضلہ تعالیٰ دولت ایمان سے محروم نہیں رہے گا اور کبھی بھی رفض و شیعیت میں گرفتار نہیں ہو گا کیونکہ رفض و شیعیت کا پہلا زینہ ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ آپ کاتب وحی، صحابی رسول اور مرکز ہدایت بر فرمان مصطفیٰ کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہیں اور حضور اقدس ﷺ کے سالے ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جن کی جناب سیدین کریمین، حضور سیدنا امام حسن اور حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما سردار جوانانِ جنت نے بیعت کی ہے۔ اور میں سال کا طویل عرصہ تادم آخر اس بیعت پر قائم رہے ہیں۔ یہ مضمون صرف اس لئے اضافہ کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات چند لمحوں کی فرصت میں سطورِ ذیل پڑھ لیں تو کم از کم ان پر بھی اتمامِ جنت ہو جائے اور ان پر ہر لحاظ سے حق واضح ہو جائے اور اگر پڑھنے والے کے سینے میں کچھ بھی خوفِ خدا موجود ہو تو اپنی آخرت برآدنہ کرے۔ یہ سطور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت، قبلہ عالم، سرتاج الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، حضور قبلہ حضرت الحاج پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف کے حکم پر اور آپ کے لخت جگر پروردہ آغوش ولایت، میرے علم دین کے اول و آخر استاد اور شیخِ کامل جامع معقول و منقول ابو الحسین حضرت الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کی نگرانی میں تحریر کی گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان ہستیوں نے اپنے نورانی اوقات میں جس انہاک سے اسے لفظ بلفظ سنائے اور پسند فرمایا ہے۔ بلکہ بڑی ہی تحسین فرمائی ہے اس سے یہ تحریر انشاء اللہ مخلوقِ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے گی۔ ہمارا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بارکات ہے۔ ضمناً چار بنات رسول ﷺ کا مسئلہ بھی تفصیل سے ۳۴۳ معتبر ترین کتب شیعہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو محبوب خدا ﷺ سے نسبت

صحابت حاصل ہے اور یہ طشدہ بات ہے کہ اپنے محبوب ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے اہتمام عظمت کیا ہوا ہے ۔

محبوب خدا ﷺ کے لیے ہر پہلو سے اہتمام عظمت کیا گیا
 قارئین حضرات! حسن کائنات سمیا تو چہرہ مصطفیٰ ﷺ بن گیا۔ جملہ کمالاتِ ظاہری و باطنی، صوری و معنوی، ذاتی و عطاً، وہی فضیل مجتمع ہوئے تو صاحبِ خلق عظیم، رحمۃ العالمین، سلطان الانبیاء والمرسلین اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا وجود پر نور سرزین مدینہ منورہ میں تشریف فرمادکھائی دیتا ہے، حضور پر نور نبی کریم رَوْف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لیے ہر پہلو سے ربِ کریم کی طرف سے عظمت و شرافت کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے کیا جاسکتا ہے جو جامع ترمذی شریف میں موجود ہے:-

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ
 مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ
 قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ
 أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ
 جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ

فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي
خَيْرِهِمْ قَدِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيْوَاتًا
فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

(جامع ترمذی شریف ج ۲ ص ۶۶۶ مترجم)

ترجمہ:- حضور پر نور بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا آپ سلام ہوا آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں خ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا کیا۔ پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین طبقہ میں داخل کیا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں داخل فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں داخل کیا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اس قولی حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آقا کے شایان شان کتنا اہتمام عظمت کیا گیا۔ یہی اہتمام عظمت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ۔ اللہ! یا انہی کا مرتبہ ہے کہ وہ رخدالیں تو قبلہ بدل جائے۔ وہ ہاں کہہ دیں تو احکام فرض ہو جائیں۔ منع کر دیں تو حرمت لازم ہو جائے۔ ادب اتنا کہ ان کی آواز پر آواز اوپر نہیں ہو سکتی۔ نام لے کر بلاں کی اجازت نہیں۔ دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ گمان پر گرفت نہیں ہوتی۔ مگر ان

کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گمان، تنگی اور ناگواری ہو تو ایمان نہیں رہتا
قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ كَفِيلًا شَجَرَ بِنَهْمٍ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ☆ (سورہ نساء)
ترجمہ:- اے محبوب! تیرے رب کی قسم! وہ مومن ہی نہیں جب تک کہ اپنے ہر
فیصلے اور جھگڑے میں تمہیں اپنا فیصلہ کرنے والا اور حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر جو فیصلہ
آپ کریں اس کے متعلق اپنی جانوں میں بھی ناگواری تک محسوس نہ کریں اور اس کو
اس طرح مان لیں جیسا کہ مانے کا حق ہے۔ (القرآن، سورہ نساء)

حضور اقدس کے فیضوں کی عظمت یہ ہے کہ جونہ مانے وہ مومن ہی نہیں؛۔ حیرت
ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ سورہ نساء کی اس نص قطعی کے باوجود اہل شیعہ
کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ان کی کون سی مشکل ہے جو اس آیت سے حل نہیں ہوتی؟
کیا پیارا اعلان قرآن مجید ہے کہ میرا محبوب تو جہاں بھر کے قصیوں کو، معاملات
کو بلکہ کل کائنات کے جھگڑوں کو نمٹانے میں ایسا حصتی فیصل اور حاکم بن کر آیا
ہے کہ دیگر مخلوق کے درمیان کئے گئے آپ کے فیصلے کو جونہ مانے یا اوپر سے
مان کر سینے میں تنگی محسوس کرے فرمایا وہ مومن ہی نہیں پس پتہ چلا؛۔

(۱) یہ کہ جو سرکار اقدس ﷺ کے فیصلے جود و سروں کے جمیع امور میں ہوئے جوان کو
نہ مانے وہ مومن ہی نہیں پھر جو فیصلے حضور پر نور ﷺ نے خود اپنی ذات با
برکات کے بارے میں کئے جو قطعی طور پر حضور اقدس ﷺ کے گھر بیلو اور ذاتی

فیصلے ہیں جو ان کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو جملہ امہات المؤمنین، حضور ﷺ کے سرال حضور ﷺ کے سالوں اور دامادوں اور آپ کے اصحاب پاک اور آل پاک کو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت ام جبیہ کے بھائی ہیں اور نبی پاک ﷺ کے سالے ہیں۔ کاتب وحی ہونا اس کے علاوہ ایک متاز شرف ہے۔

(۲) ضمناً اسی مقام پر میں اہل شیعہ کے علماء و عوام اور اصحابِ دانش کو اس نقطہ پر ہزار ہا مرتبہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور ان سے یہ بات بیانگ دہل پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ اگر کسی مجلسِ نکاح میں دولہ کے علاوہ ہزار آدمی بیٹھے ہیں تو اگر دولہ کا فیصلہ نہ میں ہو تو کیا اس مجلس میں موجود ہزار افراد کے ہاں اور قبول کہنے سے نکاح ہو جائے گا؟ یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اس طرح ہرگز دولہ کا نکاح نہیں ہو گا۔ نکاح کب ہو گا؟ بات واضح ہے کہ جب دولہ اپنے فیصلہ کے اظہار کے طور پر کہے گا۔ قبیلہ کہ میں نے اسے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا دولہ کا قبول کرنا قطعاً اور خالصتاً اس کا ذاتی فیصلہ ہے ذرا اٹھنے دل سے سوچیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لختی مگر حضرت سیدہ عائزہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت سیدہ سعیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المؤمنین سے حضور پُر نور نبی کریم ﷺ نے نکاح مبارک فرمائے تو انہیں نکاح میں قبول کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔

اور سنو! جب نبی پاک ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصة اور حضرت ام حبیبہ اور دیگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو اپنے نکاح مبارک میں قبول فرمایا تو اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ اہل اسلام کو فرمایا۔
 وَأَزْوَاجُهُ أَمَهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ (القرآن)

ترجمہ:- میرے نبی کی بیویاں اے مومنو! تمہاری مائیں ہیں۔

برخوردار خبردار! کچھ کہنے سے پہلے اب ہزار بار سوچنا! کہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت حفصة اور حضرت ام حبیبہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن تمہاری مائیں ہیں ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں روزانہ پڑھنا پڑے گا از واجہ امہاتُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کیا مال کا بے ادب جنت میں جا سکتا ہے؟ پھر سوچیں کہ دوسروں کے امور میں نبی پاک ﷺ کا فیصلہ نہ ماننے والا سورہ نساء کی درج بالا آیت کی رو سے کافر ہے اور جو سید عالم ﷺ کا اپنی ذات با برکات اور وہ بھی نکاح جیسے فیصلے کا منکر ہو اس کے کفر میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟

(۳) میرا موضوع تو نہیں لیکن نہ ماننے والوں کے جرم کی سنگینی کے پیش نظر کہتا ہوں کہ جو حضور اقدس ﷺ کی اولاد پاک یعنی آپ کی چار صاحبزادیوں کو چار نہ مانے۔ ان کے نسل رسول ہونے کا ہی انکار کرے تو کیوں نہ ایسوں پر آسمان پھٹ پڑے۔ ارے! تیری اگر چار بیٹیاں ہوں اور تیری نسل ہوں اور کوئی تجھے کہہ کہ نہیں ان میں سے تیری صرف ایک بیٹی ہے باقی تین تیری ہے، ہی نہیں! تو خود سوچ تجھ پر کیا گزرے گی؟ پھر اللہ کے محبوب کو ایسی بکواس سے کیوں

ایذا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے

إِنَّ الظَّالِمِينَ يُجْزَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (القرآن)

ترجمہ:- اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے (القرآن) اور یاد رکھیں آپ کی چار صاحزادیوں کا انکار خود قرآن کا انکار ہے اللہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُتَّقِيُّ فَلْ لَا زَوَاجٌ كَوَافِرَ
الْمُؤْمِنِينَ۔ (احزاب: ۵۹)

ترجمہ:- اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے فرمادیں؛ اس آیت مبارکہ میں ازواج اور بنات دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ عربی میں جمع کم از کم تین یا زیادہ تعداد کے لئے آتی ہے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے

فَلْ لَا زَوَاجٌ كَوَافِرَ اس نص قطعی کا انکار کے جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سید عالم ﷺ کی باقی تین صاحزادیوں کا انکار کرے کیا اس پرداریں میں لعنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یکے بعد یگرے دو صاحزادیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ان کو آج تک ذوالنورین کے لقب سے کیوں مورخ یاد کرتے

ہیں؟ اور اس پر شیعہ سنی کتب متفق ہیں۔ جو اپنے نبی کی اولاد جیسی حقیقت کو جھلادے اس سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

☆ ۱۔ یہ کونسا اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریشی تھے۔ لہذا حضور سید عالم ﷺ کی شہزادیوں سے ان کا نکاح کیسے ممکن ہے؟ ہم پوچھتے ہیں حضرت علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مبارک سید سے ہوا یا قریشی سے؟ یہ عقد حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار قریشی سے ہوا جن سے شہزادگان عون و محمد شہداء کر بلا پیدا ہوئے (مثنی الامال اہل شیعہ) (ج اص ۲۱۷) حضرت سیدہ زینب بنت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سید عالم ﷺ کی بیٹی کی بیٹی ہیں اور اس طرح حضور ﷺ کی ہی ایک واسطہ سے بیٹی ہوئیں۔ ان کا نکاح مبارک خاندان قریش میں ہوا تو حضور ﷺ کی حقیقی صاحبزادیوں کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے نہیں ہو سکتی جو قریشی ہیں اور سلسلہ نسب میں چھپشتؤں سے سید عالم ﷺ سے جاتے ہیں۔

☆ ۲۔ برخوردار! سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شادی کرنا بحکم رسول ﷺ حرام تھا لیکن ان کے وصال کے بعد حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں آٹھ شادیاں کیں اور کثیر الاولاد ہوئے مناقب شہر آشوب ج ۳ ص ۳۰۲ اور مثنی الامال جلد اول ص ۲۱ باب دوئم فصل ششم در ذکر اولاد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں باختلاف مورخین آپ کے اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں ہیں انسان انہی ناموں پر اولاد کے نام رکھتا ہے جن

سے پیار ہوتا ہے آج تک کسی اہلِ اسلام نے اپنی اولاد کے نام شداد، ہمان، نمرود اور فرعون نہیں رکھے کیونکہ ان سے کسی مسلمان کو پیار نہیں حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عن کی سیدہ فاطمہ سے اولاد کے علاوہ باقی ساری اولاد علوی کہلانی شیعہ سنی کتب متفق ہیں کہ ان علوی بیٹوں میں سے حضرت علی نے تین بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ (ملاحظہ ہوں کتب شیعہ کشف الغمہ ص ۱۳۲، تاریخ ائمہ ص ۳۳۳۔) ان میں سے دو بیٹے حضرت ابو بکر و حضرت عمر معرکہ کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان تینوں ہستیوں سے اتنا پیار تھا کہ ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ برخوردار! بلا تعصب ٹھنڈے دل سے سینہ پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچ! مولا علی کے سچے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی سنت علیؑ پوری کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر و عثمان رکھنے چاہیں یا نہیں؟ بہر حال! آدم برس مطلب!

ہم پوچھتے ہیں کہ حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی اولاد جو علوی کہلانی جن میں حضرت عباس علمدار جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ ذرا سوچ کر بتائیں کیا ان کی ماں میں سادات سے تھیں؟ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ خاندان قریش حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے تھیں۔

تمام شادیاں خاندان قریش میں ہو سکتی ہیں اور یہ امر واقعہ ہے اس میں کوئی عیب بھی نہیں تو حضور پُر نور ﷺ کی حقیقی شہزادیوں میں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یکے بعد دیگرے شادیاں خاندان قریش سے ہی رسول اللہ

علیہ السلام کی محبوب شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں ہو سکتیں؟

☆ ۳۔ اسی طرح بھولے اہل اسلام کو یہ کہہ کہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ پھر یہ صاحبزادیاں مبالغہ میں کیوں شامل نہ ہوئیں؟ تو جس طرح کہ کتب شیعہ حیات القلوب ج ۲ ص ۱۰۲۸، اور منتخب التواریخ ج ۱ ص ۲۲ پر درج ہے کہ حضرت رقیہ ۲ ھجری۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ۷، ۸ ھجری اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال مبارک گیارہ ھجری کو ہوا۔ جب مبالغہ ۱۰ ھجری کو ہوا اس وقت اکیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں۔ لہذا دیگر صاحبزادیوں کے مبالغہ میں شریک نہ ہونے کا سوال دیے ہیں فضول ہے۔ ہم یہاں معتبر ترین تینتیس (۳۳) کتب شیعہ سے تحقیق پیش کر رہے ہیں تفصیلی حوالہ جات سے پہلے ان کتب اور ان کے مصنفین کے نام ذیل میں دے جا رہے ہیں۔ ان پر پہلی نظر ہی اس حقیقت کو واضح کر دے گی۔ کہ یہ کتب خود اہل شیعہ کے نزدیک کس قدر معتر اور ان کے مصنفین اہل شیعہ کے نزدیک کس قدر محترم ہیں؟ مسلہ کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے صرف ان کتب شیعہ کے حوالے حضور اقدس علیہ السلام کی تحقیقی چار صاحبزادیاں ہونے پر پیش کئے ہیں۔ جو خود اہل شیعہ میں ایک فیصلہ کن اتحارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فیصلہ تو حکم الحاکمین اللہ کریم نے ہی کر دیا کہ فرمایا اُذُوا حِكْمَةً وَبَنَا حِكْمَةً یعنی محبوب تیری بیویاں اور تیری بیٹیاں اس کے بعد جس کے نصیبوں میں مداریت ہوا ہے مزید کسی حوالے اور فیصلے کی تو ضرورت نہیں رہتی لیکن ہم پھر بھی خود اہل شیعہ کے متقدمین اور متاخرین علماء کی بات کرتے ہیں کہ یہ جرات تو ان کو بھی نہیں ہوتی اور بلا حافظ مسلک و مذہب میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آج بھی کسی اہل علم کو نہیں ہے اور نہیں ہوتی چاہیے کہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی تحقیقی اور صلبی

چار بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہونے کا انکار کر سکتیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا محوالہ کتب کے مصنفین کے ہم نے تاریخ وفات بھی ساتھ درج کر دے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہر دور میں شیعہ مجتہدین متقد میں و متاخرین باوجود ہزار اختلافات کے سید عالم علیہ السلام کی چار حقیقی بیٹیاں ہونے پر متفق ہیں۔

ملا حظہ ہوں چار بناۃ رسول کیلئے محوالہ کتب اور ان کے مصنفین کے نام:- سب سے پہلے اہل شیعہ دن رات جنہیں پکارتے ہیں یا صاحب الزہمان اور کُنُفیٰ۔ اس امام زمان و امام غائب کا فرمان جس کتاب کے صفحہ اول پر لکھا ہوا ہے کہ اصول کافی وہ کتاب ہے جو کافی لیشیعیتائی یعنی جو ہمارے شیعوں کو کافی ہے یعنی

۱۔ اصول کافی جلد اول ص ۲۳۹ مطبوعہ تهران طبع جدید تصنیف محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفی ۳۲۹ ہجری

۲۔ فروع کافی ج ۲ ص ۱۵۶ اور ج ۲ ص ۶ باب فضل البناۃ تصنیف محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفی ۳۲۹ ہجری

شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۳۶۵ ہجری کہ جو مذہب شیعہ کا رکن اعظم ہے اور جس نے اہل شیعہ کیلئے عظیم علمی و رشہ چھوڑا ہے اس نے اپنی درج ذیل عظیم تصنیف میں نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی چار بناۃ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تسلیم کی ہیں کتب مع جلد اور صفحہ نمبر اور مطبع تک درج کئے جا رہے ہیں:-

- 3۔ تہذیب الاحکام ج ۱۶۱ ص ۸۸ مطبوعہ تہران طبع جدید
- 4۔ الاستبصار ج اول ص ۲۲۵، ۲۸۵ کتاب الجنائز
- 5۔ تلخیص الشافعی جلد ۲ ص ۵۵، ۵۲ مطبوعہ قم ایران طبع جدید
- 6۔ المبسوط ج ۲ ص ۱۵۸ کتاب النکاح
- 7۔ قرب الاسناد تصویف ابوالعباس عبد اللہ بن جعفر حیری قمی متوفی ۳۰۰ ہجری
- 8۔ خصال شیخ صدقہ ابواب السبعہ جلد ۲ صفحہ ۳۸ تصویف شیخ محمد بن علی صدقہ متوفی ۳۸۱ ہجری (بحوالہ مرآۃ العقول ج اول ص ۳۵۲)
- 9۔ بحار الانوار ج ۲۲ ص ۱۶۶، ۱۷۱ باب غدد اولادہ علیہ السلام مطبوعہ تہران طبع جدید تصویف ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱ ہجری
- 10۔ حیات القلوب ج ۲ باب ۱۵ ص ۱۰۲، ۱۵۱ اسی جلد میں باب فضائل خدیجہ ص ۷۵ تصویف ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱ ہجری
- 11۔ مرآۃ العقول ج ۵ ص ۸۰ مطبوعہ تہران طبع جدید تصویف ملا باقر مجلسی
- 12۔ کتاب الشافعی تصویف نامور شیعہ مجتهد شیخ مرتضی علم الہدی متوفی ۴۰۶ ہجری (یاد رہے یہ وہی شخصیت ہیں کہ تحریف قرآن کے سلسلہ میں اہل شیعہ پرستے ائمہ معصومین کی مرفوع روایات کو چھوڑ کر شیخ مرتضی کے مسلک کو اپنانے اور قرآن کے مکمل اور غیر محرف ہونے کا مناظروں میں دعویٰ کرتے ہیں)
- 13۔ مسالک الافہام شرح شرائع الاسلام تصویف زین الدین احمد عاملی متوفی ۹۶۲ ہجری
- 14۔ تنقیح المقال فی علم الرجال ج ۲ ص ۷ باب الحاء تصویف شیخ عبد اللہ

مامقانی متوفی ١٣٢٣ھجری

- ١٥- ناسخ التواریخ (جلد اول ص ١٦٣، وقائع سال دویم هجری، ج اول ص ٦٦٩، ج ٣ ص ٩٣) تصنیف اسان‌الملک مرزا محمد تقی سپه‌متوفی ١٢٩٧ھجری
- ١٦- مجمع البحرين (بحواله اعیان الشیعه ج ٣ ص ٢٨٧ تذکره ام کاثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
- ١٧- نجح البلاعم (بحواله شرح فیض الاسلام و شرح ابن الیحدی) مصنف سید ابو الحسن شریف محمد رضی متوفی ٢٠٢٣ھجری
- ١٨- مجالس المؤمنین ج اول ص ٢٠٢ تصنیف نور‌الله شوستری متوفی ١٠١٩ھجری
- ١٩- انوار نعمانیه ج اول ص ٣٦٦ مطبوعه تبریز طبع جدید تصنیف سید نعمت الله الجزایری
- ٢٠- اعلام الوراء تصنیف علامه طبری بحواله اعیان الشیعه
- ٢١- ذخیر عظیم ص ٢٢ مطبوعه لا ہور طبع جدید تصنیف سید اولاً دحیدر بلگرامی
- ٢٢- منتخب التواریخ باب اول ص ٢٣ حالات ازواج و اولاد پیغمبر تصنیف حاجی محمد ہاشم بن محمد علی خراسانی
- ٢٣- تختة العوام حصہ اول باب ٧ اص ١١٣ مطبوعہ لکھنؤ تصنیف مفتی مظفر حسین احمد علی
- ٢٤- تفسیر مجمع البیان ج ٢ ص ٣٣٣ تصنیف ابوعلی فضل بن حسن طبری
- ٢٥- تفسیر منج الصادقین ج ٧ ص ٣٣٢ تصنیف ملا فتح‌الله کاشانی
- ٢٦- ابن الیحدی شرح نجح البلاعم ج ٣ ص ٣٦٠ طبع بیروت تصنیف ابوالحامد عبد الحمید بن ہبۃ اللہ المعروف بـ ابن حمید متوفی ٦٥٦ھجری

- 27- فیض الاسلام شرح نجح البلاغه خطبه ۱۳۳ ص ۵۲۸ تصنیف حاجی سید علی تقی
المعروف فیض الاسلام
- 28- چهارده معصوم ج اول باب پنجم ص ۲۲۲ مطبوعه تهران تصنیف عمام الدین حسین
اصفهانی
- 29- اعیان الشیعه ج سوم ص ۷۸۷ تذکره ام کلثوم بن محمد صلی اللہ علیہ وسالہ و علیہ السلام
- 30- منتهی الامال ج اول فصل هشتم باب اول ص ۲۵۵ تصنیف شیخ عباس قمی متوفی
۱۳۵۹ ہجری
- 31- مرودج الذہب ج ۲ ص ۲۹۱ تصنیف ابو الحسن علی بن حسین مسعودی متوفی ۳۲۶
ہجری
- 32- التیپہ والاشراف ص ۲۵۵ تحت ذکر خلافت عثمان تصنیف ابو الحسن علی بن حسین
مسعودی متوفی ۳۲۶ ہجری
- 33- مناقب آل ابی طالب ج اول ص ۱۶۱ تصنیف علامہ محمد بن علی بن شهر آشوب
متوفی ۵۸۸ ہجری
- 1- اصول کافی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسالہ و علیہ السلام کی چار صاحبزادوں
کا فتویٰ

وَتَزَوَّجَ خَدِيْجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضَعْعِ وَعِشْرِينَ
سَنَةً فَوْلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ

وَرُقِيَّةَ وَزَيْنَبَ وَأَمْ كُلُثُومَ وَوُلِدَةَ
بَعْدَ الْمَبْعَثِ الْطَّلِيفِ وَالظَّاهِرِ وَالْفَاطِمَةِ
عَلَيْهَا السَّلَامُ

(أصول کافی جلد اول صفحہ ۹۳۴، مطبوعہ تهران جدید اور
اصول کافی مترجم جلد اول صفحہ ۵۲۳، مطبوعہ کراچی)

ترجمہ:- اور نبی پاک ﷺ نے بیس سال
سے زائد عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ
کے بطن سے نبی پاک ﷺ کے صاحزادے حضرت قاسم اور صاحزادیاں
حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد انہی
خدیجہ سے طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئیں (اصول کافی جلد اول
صفحہ ۹۳۹، مطبوعہ تهران جدید اور اصول کافی مترجم جلد اول صفحہ ۵۲۲، مطبوعہ کراچی)
2۔ منتخب التواریخ باب اول صفحہ ۲۲۷ مطبوعہ ایران حالات ازواج و اولاد پیغمبر کے
ذیل میں واشگاف الفاظ میں درج ہے۔ اما مکرمہ زینب در سال پنجم از

تزویج جناب خدیجۃ الکبیری بہ پیغمبر ﷺ متولد شد

ترجمہ حضرت زینب نبی پاک ﷺ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے پانچویں سال
پیدا ہوئیں۔ پھر صاحب منتخب التواریخ نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی پیدائش
اور یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ذکر کیا اور لکھا ہلنا

وَرُقَيْةَ وَزَيْنَبَ وَأَمَّ كُلُّ شُعُّيمٍ وَوَلِدَاتَهُ
بَعْدَ الْمَبْعَثِ الْقَطِيلِيْبِ وَالظَّاهِرِ وَالْفَاطِمَةَ
عَلَيْهَا السَّلَامُ

(أصول کافی جلد اول صفحہ ۳۴۹، مطبوعہ تهران جدید اور
أصول کافی مترجم جلد اول صفحہ ۵۲۳، مطبوعہ کراچی)

ترجمہ:- اور نبی پاک ﷺ نے میں سال
سے زائد عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ
کے بطن سے نبی پاک ﷺ کے صاحزادے حضرت قاسم اور صاحزادیاں
حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد انہی
خدیجہ سے طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ علیہما السلام پیدا ہوئیں (أصول کافی جلد اول
صفحہ ۳۴۹، مطبوعہ تهران جدید اور اصول کافی مترجم جلد اول صفحہ ۵۲۳، مطبوعہ کراچی)
2۔ منتخب التواریخ باب اول صفحہ ۲۲۴ مطبوعہ ایران حالات ازواج و اولاد پیغمبر کے
ذیل میں واشگاف الفاظ میں درج ہے۔ اما مکرمہ زینب در سال پنجم از

تزویج جناب خدیجۃ الکبریٰ بہ پیغمبر ﷺ متولد شد

ترجمہ حضرت زینب نبی پاک ﷺ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے پانچویں سال
پیدا ہوئیں۔ پھر صاحب منتخب التواریخ نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی پیدائش
اور یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ذکر کیا اور لکھا "ہذا

عثمان را ذوالنورین میکوئید یعنی اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں۔

3 دختران آنحضرت چهار نفر بودندو همه از خدیجہ بود جو وجود

آمدند (حیات القلوب جلد دوم صفحہ ۱۰۲، باب ۱۵ مطبوعہ نوکشور طبع قدیم)

ترجمہ نبی پاک ﷺ کی چار بیٹیاں تھیں اور سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئیں۔

4. فرمان حضرت امام جعفر صادق ازتہی الامال و مردوں الذہب

در قرب الاستاد از صادق علیہ السلام روایت شده است کہ از برائے رسول خدا ﷺ

از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔

ترجمہ قرب الاستاد میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کی اولاد طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تولد ہوئی۔ (۱)۔ ازتہی الامال جلد اول صفحہ ۱۲۵، فصل هشتم باب اول مطبوعہ ایران

(۲۹۱ صفحہ ۲ جلد ۲، مردوں الذہب)

5۔ ملاباق محلی خود نبی پاک ﷺ کا فرمان درج کرتا ہے۔ کوئی بے جواب نہیں کے فرمان کو مان لے؟ اور فرمان بھی ایسا جس میں آپ خود اپنی اولاد کی تفصیل بتا رہے ہیں۔

”خدیجہ اور اخدا رحمت کند از مدن طاہر مطہر را بھم رسانید کہ او عبد اللہ بود و قاسم را آورد و رقیہ و فاطمہ و زینب و ام کلثوم ازو بھم رسید“

ترجمہ:- اللہ کریم حضرت خدیجہ پر رحمت فرمائے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ نے طاہر و

مطہر (عبد اللہ) اور قاسم اور رقیہ اور فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم سب کو جنم دیا۔

(حیات القلوب جلد ۲ صفحہ ۱۵، باب فضائل خدیجہ ملابر قرجی) (۱)

6 در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است که از برائے رسول خدا علیہ السلام از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم و فاطمہ، ام کلثوم و رقیہ و زینب (حیات القلوب جلد ۲ صفحہ ۲۰۲، باب ۱۵ مطبوعہ نوکشور) (۲)

ترجمہ:- قرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کی یہ اولاد پیدا ہوئی - طاہر، قاسم (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) (۳)

7 اسی طرح مصنف با قرآن مجسی صاحب مرأۃ العقول نے ج ۱ ص ۳۵۲ پر بھی نبی پاک کی حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے چار صاحبزادیوں کو تسلیم کیا اور علامہ ابن شہر آشوب کے ”المناقب“ سے مزید تائیدی حوالہ بھی دیا۔

8 فرمان نبی کریم علیہ السلام

وَهَذَا الْحُسْنَى وَمَنْ خَيَرَ النَّاسُ خَالَّاً وَخَالَّةً

وَخَالَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمُ وَخَالَّتُهُ

زَيْنَبُ وَرُقَيَّةٌ وَأُمُّ كَلْثُومٍ -

(ذیم عظیم صفحہ ۲۲، مصنفہ سید اولاد

حیدر مطبوعہ لا ہور طبع جدید

ترجمہ:- اور فرمایا یہ حسین ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بھی تمام انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ اس کے ماموں عبد اللہ اور ابراہیم ہیں اور اس کی خالائیں حضرت زینب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں

وَإِنَّمَا وَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ وَأَرْبَعَمْ بْنَاتٍ زَيْنَبٌ

وَرَقِيَّةٌ وَأُمُّ كُلُّ شُوْمٍ وَفَاطِمَةٌ

(انوار نعمانیہ جلد اول ص ۶۶ مطبوعہ

تبریز طبع جدید)

ترجمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پر نور نبی کریم ﷺ سے دو صاحبزادے بننے اور آپ سے ہی چار صاحبزادیوں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) کو جنم دیا۔
قارئین! یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جس میں مسلک ائمہ اور مذہب شیعہ کو صحت کے ساتھ نقل کرنے کا اس حد تک اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کتاب کی ابتداء میں ہی خود انوار نعمانیہ کے مصنف کا یہ دعویٰ درج ہے۔

قَدِ الْتَّزَمْنَا أَنْ لَا نَذُرْ كُرْفَيْهِ إِلَّا مَا أَخْذَنَا هُ
عَنْ أَرْبَابِ الْعَصَمَةِ الطَّاهِرِيْنَ أَوْ مَا عَصَمَ

عِنْدَنَا مِنْ كُتُبِ النَّاقِلِينَ -

ترجمہ: ہم نے اس کتاب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہم اس میں اور کوئی ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے جو ہم نے انہم موصویں سے اخذ کیا ہو یا جو کتب ناقلين سے ہم اہل شیعہ کے نزدیک صحیح ثابت ہوا ہے۔

۵۱ : رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ خَدَائِجَةَ الْقَاسِمُ وَالظَّاهِرُ قَهْوَ عَبْدُ اللَّهِ قَأْمُ كُلُثُومٍ وَرُقَيَّةَ وَرِينَبٍ وَفَاطِمَةَ -

(مراۃ العقول شرح الاصول والفروع جلد

اول صفحہ ۳۵۲)

ترجمہ:- شیخ صدوق نے خصال میں اپنی سند سے حضرت ام ابو عبد اللہ سے روایت کیا کہ رسول خدا ﷺ کی اولاد جو حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ قاسم اور طاہر المعروف بے عبد اللہ اور ام کلثوم، رقیہ اور زینب اور فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) ہیں۔

(مراۃ العقول شرح الاصول والفروع جلد اول صفحہ ۳۵۲)

۱۱ اہل شیعہ کے ائمہ جرح و تعلیل نے حضور اقدس ﷺ علیہ السلام

کی چار بیٹیوں پر اجماع فریقین نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں شیعہ اپنے امام جرح و تعلیل مامقانی کی تصنیف تنقیح المقال جلد دوم صفحہ ۹۷ سے تفصیلاً پڑھ لیں تو انہیں نبی پاک ﷺ کی چار بیٹیوں کے انکار کی بھی جرات نہ ہو گی کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے علاوہ باقی صاحبزادوں کو ربیہ یعنی حضرت خدیجہ کی پچھلی بیٹیاں کہنے والوں کو مامقانی نے خود دندان شکن جواب دئے ہیں کیونکہ مسلم کوئی بھی ہواں سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں ہمارے نبی کی حقیقی اور صلبی کہوں اور نعوذ باللہ! منسوب کسی اور سے کی جائیں؟ لہذا اس عظیم شیعہ محقق نے جابر بنات رسول کے عقیدہ کو مابین فریقین متفق علیہ قرار دیا ہے اور اس پر فریقین کا اجماع نقل کیا ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

إِنَّ كُتُبَ الْفَرِيَقَيْنِ مَشْهُونَةٌ بِأَنَّهَا وُلِّدَاتُ
اللَّهِيَّ (ص) أَرْبَعَ بَنَاتٍ زَيْنَبُ وَأُمَّةُ كَلْثُومٍ
قَفَاطِمَةُ وَرَقِيَّةُ

(تنقیح المقال جلد سوم صفحہ ۲، باب الحاء)

ترجمہ:- شیعہ سنی دونوں فریقوں کی کتابیں اس

بات کی تائید میں بھری پڑی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی حقیقی صلبی بیٹیاں چار تھیں جن

کے نام زینب۔ ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں
 (تنقیح المقال جلد ۳ صفحہ ۷ باب الحا)

12 ملا باقر مجلسی نے بھی میں واضح طور پر بنات رسول چار ہونے پر اجماع فریقین درج کیا ہے۔ دیکھیں مرآۃ العقول ج ۵ ص ۱۸۰ مطبوعہ تہران طبع جدید

13 بلکہ لطف والی بات یہ ہے کہ اسی ملا باقر مجلسی نے مرآۃ العقول جلد ۲۲ صفحہ ۱۶۵، ۱۶۶ تاریخ نینیا علیہ السلام مطبوعہ تہران طبع جدید میں دو مرکزی شیعہ مجتہد شیخ مفید اور شیخ مرتضیؑ کا ایک طویل مکالمہ نقل کیا ہے جس میں انہوں نے دلائل سے حضور سید عالم علیہ السلام کی چار حقيقة صاحبزادیوں کو تسلیم کیا اور اس کے بعد دلکھوں کران میں سے دو صاحبزادیوں کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی تسلیم کی۔ مقام حیرت ہے کہ متقدہ میں شیعہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ بڑی کہ حضور اقدس علیہ السلام کی چار صاحبزادیوں کے حقیقی ہونے کا انکار کرے۔ اس کے بر عکس آج مخالفت کیوں؟

14 اہل شیعہ کے دونا مولوی مجتہدین میں سے شیخ مرتضیؑ نے اپنی کتاب الشافی میں اور شیخ طویلؑ نے اس کی شرح ”تلخیص الشافی“، جلد ۳ صفحہ ۵۵، ۵۶ مطبوعہ قم ایران طبع جدید میں واضح طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ سیدہ رقیہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم حضور اکرم علیہ السلام کی صلبی اور حقيقة صاحبزادیاں ہیں۔

15 وَ زَوْجَ بِنَتِيْهِ رُقَيَّةَ وَ اُمَّ رَكْلُثُوْمِ عُثْمَانَ
 لَمَّا مَاتَ الشَّانِيَةُ قَالَ لَوْ كَانَتِ الشَّانِيَةُ

لَنْ وَجَنَّا هَا إِيَّاهُ

رالمبسوط جلد چہارم صفحہ ۱۵۸ اکتاب النکاح)

ترجمہ حضور ﷺ نے اپنی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلنوم کیے بعد گیرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیں جب دوسری کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر تمیری ہوتی تو اسے بھی عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ یہاں صاف الفاظ ہیں زَوْجَ زَوْجَيْهُ کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔

16 چہارہ معلوم جلد اول باب پنجم صفحہ ۲۲۲، مطبوعہ تہران طبع جدید میں اس امر کی تصریح کر دی گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے حضور اکرم ﷺ کے بیٹوں کے علاوہ چار بیٹیاں بپیدا ہوئیں۔

17 ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ ۲۶۳ اوقات سال دوم ھجری میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے غزوہ بدر سے پیچے رہ جانے کے واقعہ میں واضح طور پر لکھا کہ

”رقیہ دختر رسول خدا بود“

یعنی ”رقیہ حضور پر نور ﷺ کے رسول کی بیٹی تھیں۔“

18 ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ ۲۶۹ میں لکھا ہے۔

”درہنگام ہجرت دو دختر پیغمبر در مکہ باز ماند۔“ ترجمہ حضور اکرم ﷺ کی دو

صاحبزادیاں ہجرت مدینہ کے وقت مکہ رہ گئی تھیں۔“

۱۹ ناخٰ التواریخ جلد سوم صفحہ ۹۳ پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں برابر حصہ ملنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ وہ رسول خدا ﷺ سے پچھپے رہے کیونکہ ”رقیہ دختر رسول ماریض بود“ کہ حضور اقدس ﷺ کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں۔

۲۰ ولدت حَدِيْجَةُ لَهُ زَيْنَبُ وَ رُقِيَّةُ وَ أُمُّ الْكُلُّوْمِ وَ فَاطِمَةُ ترجمہ: حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضور اکرم ﷺ کی چار بیٹیاں نیسبت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئیں (بخار الانوار جلد ۲۲ صفحہ ۱۶۶، ۱۶۷، باب عدوا لا دعیۃ السلام، مطبوعہ تہران، طبع جدید)

۲۱ اعيان الشیعہ جس کی دس بڑی بڑی جلدیں ہیں اور شیعوں کی مائیہ ناز کتاب ہے اس میں کتنے واضح الفاظ ہیں ملاحظہ ہوں:-

وَفِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيْجَةَ آنَّ بَعْ بَنَاتِ كُلُّهِنَّ أَدْرَكُنَ الْإِسْلَامَ وَهَا جَرْنَ وَهُنَّ زَيْنَبُ وَفَاطِمَةُ وَرُقِيَّةُ وَأُمُّ الْكُلُّوْمِ وَقَالَ الطِّبَّارِسِيُّ فِي أَعْلَامِ الْوَرَاءِ وَغَيْرُهُ إِنَّ أُمَّ كُلُّشُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا عُثْمَانَ بَعْدَ أُخْتِهَا رُقِيَّةَ وَتُؤْفَيَتْ عِنْدَهَا.

(اعیان الشیعہ جلد سوم ص ۲۸ تذکرہ ام کلثوم بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مطبوعہ بیروت طبع جدید)

”مجمع البحرين میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی حضرت خدیجہ کے بطن سے چار بیٹیاں تھیں ان سب نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی۔ ان کے نام یہ ہیں زینب فاطمہ۔ رقیہ اور ام کلثوم۔ اعلام الوراء وغیرہ میں طبری نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی صاحزادی ام کلثوم سے حضرت عثمان نے شادی کی جب کہ ان کی ہمیشہ کا انتقال ہو گیا تھا حضرت رقیہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہی ہوا تھا۔“
(اعیان الشیعہ جلد سوم صفحہ ۲۸ تذکرہ ام کلثوم بنت محمد ﷺ مطبوعہ بیروت طبع جدید)

22 قارئین اہل شیعہ نے بنو ہاشم کی غیر بنو ہاشم سے رشتہ داریوں کے باب میں واضح طور پر لکھا ہے۔

اَزَّقَهُ ابْنَتَهُ عُثْمَانَ وَنَوْجَهُ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
بِنْ اَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَلِيُسَامِنُ بَنْيُ هَاشِمٍ
(مسالک الافقیام شرح دشراعیم الاسلام، جلد اقل مطبوعہ ایران سن طباعت ۱۲۰۴ھ)

ترجمہ:- حضور اکرم ﷺ نے اپنی ایک صاحزادی کی شادی

حضرت عثمان بن عفان سے کی اور دوسری دختر جناب زینب کا نکاح ابو العاص بن ربيع

سے کیا اور یہ دونوں شخص بنی ہاشم سے نہ تھے (مسالک الافہام شرح "شائع الاسلام" کتاب الفکار باب لواحق العقد، جلد اول مطبوعہ ایران سن طباعت ۱۴۲۳ھ)

23 شیعوں نے خود آیت ۵۹ سورہ احزاب کا ترجمہ یوں کیا ہے "اے پیغمبر بگو مر زنان خود را و مر دختر ان خود را"

ترجمہ:- "اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے فرمادو" (منیج الصادقین جلد ۷ صفحہ ۳۳۲)

24 الحمد للہ! شیعوں کی مشہور کتاب تحفۃ العوام کی عبارت ملاحظہ ہو جس میں نبی پاک ﷺ کے بیٹوں اور بیٹیوں پر درود بھیجنے کے بعد ان کی توہین کرنے والوں اور ان کی وجہ سے سید عالم ﷺ کو ایذا دینے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقَاسِمِ وَالظَّاهِرِ ابْنِي
نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ
وَالْعَنْ مَنْ أَذْى نَبِيِّكَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
أُمِّ كُلُّ شُوْمٍ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْعَنْ مَنْ أَذْى نَبِيِّكَ فِيهَا

(تحفۃ العوام حصہ اول باب ص ۳۳، مطبوعہ نوکشور لکھنؤ)

ترجمہ:- اے اللہ! قاسم اور طاہر

پر رحمت بھیج۔ جو دونوں تیرے نبی کے بیٹے ہیں اے اللہ حضور ﷺ کی دختر رقیہ پر

رحمت نازل فرما اور جس نے تیرے نبی کو اس بیٹی کے معاملہ میں تکلیف دی اس پر لعنت فرمائے اللہ ام کلثوم بنت رسول پر رحمت فرمائے اور اس کے معاملہ میں نبی پاک کو دکھ اور ایذا دینے والے پر لعنت فرماء (تحفة العوام حصہ اول باب ۷ صفحہ ۱۱۲، مطبوعہ نوکلشور لکھنؤ)

25 فروع کافی جلد دوم صفحہ ۵۶ انوکلشور پر امام جعفر صادق نے کئی بیٹیاں پیدا ہونے پر شکوہ کرنے والے ایک شخص کوڈ اتنا اور اسے اپنے نبی کی مثال دی اور پھر اسی کتاب کی ج ۶ ص ۶ باب فضل البنات مطبوعہ تہران طبع جدید پرواضح الفاظ ہیں

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَابَنَاتٍ۔

ترجمہ:- نبی پاک ﷺ ایک سے زائد بیٹیوں کے باپ تھے۔

26 اہل شیعہ کی صحاح اربعہ میں سے دو کتب حدیث کتاب الاستبصار ج ۱ ص ۲۲۵، ۲۲۵ کتاب الجنائز اور تمذیب الاحکام ج ۸ ص ۱۶۱ باب عدۃ النساء مطبوعہ تہران طبع جداید میں اس سوال کے جواب میں کہ آیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا

وَإِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ الْتَّيِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَوَفِّيَةً وَارَتْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ خَرَجَتُ فِي نِسَاءِهَا

فَصَلَّتْ عَلَىٰ أُخْتِهَا -

”فرمایا حضرت نبیت بنت رسول خدا کا جب وصال ہوا تو خاتون جنت حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیگر عورتوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔
27 تفسیر مجمع البیان ج ۲ صفحہ ۳۳۲ میں واضح طور پر درج ہے۔

عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَ امْرَأَتُهُ رُقِيَّةٌ بْنَتُ رَسُولِ اللَّهِ

(تفسیر مجمع البیان ج ۲ جزو سوم ص ۳۳ مطبوعہ تہران)

ترجمہ:- عثمان ابن عفان جو ہیں ان کی بیوی رقیہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی ہیں۔

28 شرح نجح البلام فارسی الاسلام خطبہ ۱۲۳ ص ۵۲۸ مطبوعہ تہران پر شیعہ محقق کے الفاظ ملاحظہ ہوں عثمان رقیہ و ام کلثوم رابنا بر مشہور دختران پیغمبر انہ بهمیری خود در آدرد ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے شادی کی جو مشہور روایات کے مطابق دختران پیغمبر ﷺ ہیں

29 مشہور شیعہ مورخ مسعودی ”رقیہ بنت رسول اللہ“ یعنی ”رسول اللہ کی بیٹی رقیہ“ کے الفاظ لکھ کر تسلیم کرتا ہے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد اللہ نامی بیٹا اسی شہزادی رسول سے پیدا ہوا جو چھ برس کی عمر میں فوت ہو گیا (التنبیہ والاشراف للمسعودی ص ۲۵۵ تحت ذکر خلافت عثمان)

30 مسعودی رقم طراز ہے وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ عَبْدُ اللَّهِ

الْأَصْغَرُ أَمْهَارَ قِيَةٍ بِنُتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ:- حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے ”عبداللہ اکبر“ اور ”عبداللہ اصغر“ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ رقیہ سے پیدا ہوئے (مرودج الذہب لمسعودی ج ۲ ص ۳۳۱، ذکر خلافت عثمان بن عفان)

31 شارح نہج البلاغہ نے حضرت عثمان غنی کیلئے ”ذوالنورین“ لقب کی حقیقت کو یوں تسلیم کیا۔

فَالشَّيْخُنَا أَبُو عُثْمَانَ وَلَهَا مَاتَتِ الْإِبْنَاتِ
نَحْنُ عُثْمَانَ قَالَ الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
زَوْجُتُهُ إِبْنَتَيْنِ وَلَوْ أَنَّ عِنْدِيْ تَالِثَةَ لَفَعَلْتُ مَا قَالَ
فَالَّذِيْ سُلِّيْ ذُو التُّورَيْنِ.

(شرح نہج البلاغہ ابن ابی جداید)

جلد ۳ ص ۳۶۰، طبع بیروت بڑا سائز

ترجمہ: ہمارے شیخ ابو عثمان نے کہا جب حضرت عثمان (رضی اللہ

تعالیٰ عنہ) کے عقد میں یکے بعد دیگرے بیوی بننے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں فوت ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ ”میں نے اپنی دو بیٹیوں کی عثمان سے شادی کی اگر میرے پاس تیسری بھی ہوتی تو اس کی شادی بھی اس سے کر دیتا راوی کہتا ہے اسی لئے حضرت عثمان کو ”ذوالنورین“ یعنی دونوروں والا کہتے ہیں“

(شرح فتح البلاغہ ابن ابی حدید ج ۳ ص ۳۶۰، طبع بیروت بر اساس از)

32 سجاد اللہ! اہل شیعہ کے اہل علم کے سرتاج علامہ ابن شہر آشوب نے کتاب مناقبِ آئل ابی طالب لکھی اور انتہائی خوشی ان الفاظ کو پڑھ کر ہوتی ہے کہ جب موصوف مصنف مقدمہ کتاب میں ہی یہ تصریح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”جتنی احادیث میں اپنی اس کتاب میں لایا ہوں ان تمام کو میں نے قرآنی آیات کے شواہد سے نقل کیا ہے میں نے اس کتاب میں سرکشی اور ہست و ہرمی اختیار کرنے کی بجائے حق کی طرف رجوع کرنے کو ترجیح دی ہے اور میں نے اس کتاب میں وہی درج کیا ہے جو قرآن پاک کے عین مطابق ہے اور جسے غلط کثیر نے روایت کیا ہے“

(مناقب ابن شہر آشوب جلد اول ص ۱۲، ۱۳ مطبوعہ قم طبع جدید)

اب دعویٰ کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَبِنَاءً إِنَّكَ کو سامنے رکھتے ہوئے، سرکشی اور ہست و ہرمی کی بجائے حق کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور قرآن پاک کے مطابق غلط کثیر کی متواتر اور متواتر حق گوئی کو علامہ شہر آشوب نے بیان کیا ہے اُن کے ماننے والے اہل شیعہ بھی اسی طرح حضور کی صاحبزادیوں کے چار ہونے کے متعلق اپنا عقیدہ اپنالیں علامہ ابن شہر آشوب و اشگاف الفاظ میں لکھتے ہیں

وَأَوْلَادُهُ وَلِدَ مِنْ خَدِيْجَةَ الْقَاسِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ
وَهُمَا الطَّاهِرُ وَالظَّاهِبُ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ زَيْنَبَ

وَرُقِيَّةُ وَأُمُّ كَلْثُومٍ وَهِيَ أَمِنَةُ وَفَاطِمَةُ۔

نی^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے حضرت خدیجہ سے دوڑ کے پیدا ہوئے قاسم اور عبد اللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں اور انہی سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم جن کا اصل نام آمنہ ہے اور سیدہ فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہن)

(مناقب آل ابی طالب جلد اول ص ۱۶۱ باب ذکر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام فصل فی اقرباہ و خدامہ مطبوعہ قم خیابان طبع جدید)

33 قاضی نور اللہ شوستری رقم طراز ہے ”اگر نبی دختر بے عثمان دادولی دختر بھر فرستاد ترجمہ:- اگر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کے عقد میں دی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر بن خطاب کے عقد میں دی (مجلس المؤمنین ج ۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ تہران)

قارئین! ۳۳ معتبر ترین کتب شیعہ کے تفصیلی حوالہ جات آپ نے پڑھے جو اپنی وضاحت آپ ہیں ہر حوالہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقی صلبی چار بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئیں کوئی ایک بھی حوالہ اگر غلط ثابت کر دیا جائے تو فی حوالہ وس ہزار روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ یہ بطور تعلیٰ کے بات نہیں کہی بلکہ اس نقطہ نظر سے کہی ہے کہ شاید کوئی شیعہ اپنے مذہب کی اپنی کتابوں میں سے اصلی عبارات دیکھ لے سید عالم علیہ السلام کی حقیقی چار صاحبوں کے عقیدہ حقہ کا اقرار کر لے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ بھی ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔

حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بیعت

حضرت معاویہ کرنے تک مختصر تعارف حضرت امیر معاویہ

البداية والنهاية جلد ۸ صفحہ ۱۱۵ اور الاصابہ فی تمیز الصحابة جلد ۳ صفحہ ۷۳۳

پر حرف میم کے تحت لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت سے چند سال قبل پیدا ہوئے۔ عمرۃ القضاۓ میں آپ ایمان لائے لیکن شیعہ سنی کتب میں متفق علیہ بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا اور صحابی رسول بنے۔ مشہور شیعہ مورخ کبیر حسین بن علی مسعودی اپنی تصنیف مرودج الذہب جلد سوم ص ۲۹ پر لکھتا ہے کہ: - حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نماز صبح کے بعد تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے۔ پھر چار رکعت نماز اشراق ادا فرماتے۔ پھر تمام نمازوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ساتھ دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں صرف فرماتے۔ پچھلی رات اٹھ کر تہجد بھی ادا فرماتے۔ رات کو عبادت اور دن کو سخاوت کی انہتا کر دیتے؛

سورہ یونس آیت ۱۰۰ میں اللہ کریم فرماتے ہیں مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنُ بِ

إِلَّا يَأْذُنُ اللَّهُ؛ کامے محبوب! کسی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آپ پر ایمان لائے؛ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ جب تک آنکھوں پر پردہ تھا اہل مکہ میں سے ایک سے ایک سے بڑھ کر بڑا کافر اور بڑا منم تھا لیکن جب انہی کے لئے اللہ کی طرف سے اذن ایمان ہوا تو ان کو جلوہ مصطفیٰ ﷺ نظر آ گیا۔ اسی پس منظر میں اللہ کی طرف سے اذن ایمان ہوا تو فتح مکہ کے دن امیر معاویہؑ کی والدہ

حضرت ہندہ اور آپ کے والد حضرت ابوسفیان کو دولت ایمان نصیب ہوتی اور درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دراز قد، سفید رنگ اور انتہائی خوبصورت پیکر اور وجود والی شخصیت تھے۔ بربدار ایسے کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں معاویہ سب سے زیادہ سخنی اور بردبار ہیں (تطہیر الجنان صفحہ ۱۲) آپ اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے امین اور راز دار تھے۔ کاتب وحی جیسا اعزاز حاصل ہوا۔ فرمان رسول ﷺ ہے کہ، میر اراز دار معاویہ بن ابی سفیان ہے جو ان سے محبت رکھے گا وہ نجات پائے گا اور جوان سے بعض رکھے گا وہ ہلاک ہو گا (تطہیر الجنان صفحہ ۱۳) آپ قریشی اور اموی ہیں۔ آپ کی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام جبیہ رضی اللہ عنہا م المؤمنین ہیں اور حضور سید عالم ﷺ کے نکاح مبارک میں ہیں۔ اس طرح آپ نام مومنوں کے ملموں ہیں۔ آپ ان چالیس ممتاز و منفرد مقام کے حامل صحابہ کی صفت میں شامل ہیں جو کاتبین وحی ہیں۔ آپ کی دیانت امانت پر حرف آئے تو اہر استلزم طور پر قرآن مجید میں تحریف ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر قرآن مجید تحریف سے پاک مانا ہے تو قرآن اور وحی کے کاتب کے ایمان و دیانت کوشک و شبہ سے بالا مانا ہی پڑے گا۔ آپ غزوہ حنین میں شامل تھے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو بہت سماں غنیمت ہاتھ آیا۔ اس سے حضور پر نورِ ول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک سونٹ اور چالیس اوپریہ سونا عطا فرمایا اور سونا تول کر دینے والے ہاتھ حضرت مبدنا بلال جبشی رضی اللہ عنہ کے با برکت ہاتھ تھے۔ (ابن عساکر جز ۲۲ ص ۲۰۳)

اہل شیعہ کی شہرہ آفاق کتاب ناسخ التواریخ جلد سوم ص ۱۳۹ تا ۱۴۱ کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان جنگوں میں شریک ہوئے بلکہ ان لشکروں کی قیادت کی کہ جن لڑائیوں اور جنگوں میں شامل ہونے والوں کے لئے بنی کرمیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں ۱۴۱ ہجری کو شام کے جہاد میں ابوسفیان کا پورا گھرانہ یعنی وہ خود، ان کے دونوں بیٹے جو دونوں صحابی ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان اور یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہما سمیت سب شریک تھا (اسد الغابہ ج ۳ ص ۳۵۸، تاریخ اسلام ازندوی ص ۳۲۷) آپ کی عسکری خدمات اور اسلام کے لئے فتوحات اور غیر مسلموں کو دولتِ اسلام عطا کرنے میں آپ کی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے جو شیعہ سنی مورخین دونوں نے بیان کی ہیں۔

قارئین! خلافتِ راشدہ کا ہر لمحہ کوثر کی موج بن کراہ برہا ہے۔ مرادِ رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کو اپنی پوری خلافت کے دورانِ دمشق کا امیر بنادیتے ہیں اور بھرے دربار میں حسنِ انتظام اور جلالت و ہیبت میں آپ کو تمامِ عالم اسلام کا کسریٰ قرار دیتے ہیں۔ فتحِ بیتُ المقدس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستخط بطور گواہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دوڑِ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے امیر رہتے ہیں۔ اس طویل دور میں خلفاءِ راشدین اور جملہ

صحابہ کرام کا آپ کی امارت پر راضی رہنا کیا کم فضیلت ہے؟ وقت گذرتا گیا تا
وقتکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلمًا شہید کر دیا جاتا ہے خلیفۃ الرسول کی
شهادت کوئی معمولی بات نہیں کہ جن کی حفاظت پر مولاۓ کائنات، شہنشاہ ولایت
مولاعلی رضی اللہ عنہ اپنے شہزادگان حضرات حسین کریمین کو معین کرتے ہیں
لیکن باغی دوسری طرف کی دیوار پھلانگ کر حضرت سیدنا عثمان جامع القرآن
رضی اللہ عنہ کو دورانِ تلاوت قرآن مجید شہید کر دیتے ہیں یہاں جذبات کا بر
ائیجنت ہونا ایک فطری بات تھی۔

اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ کہتا تھا کہ قاتلانِ عثمان سے
قصاص فوراً لیا جائے اور قاتل ان کے حوالے کئے جائیں۔ اس گروہ میں اُمُّ
المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت
حضرات طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ جیسے جید صحابہ بھی شامل تھے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ پہلے
خلیفۃ اسلام منتخب کیا جائے تاکہ قصاص یعنی کے لئے ایک مجاز اتحارثی قائم ہو جائے
اور پھر اس طرح بعد میں قصاصِ عثمان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس گروہ کی قیادت
حضور سیدنا و مولا نا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ فرمادی ہے تھے اور
ادھر بھی جید صحابہ کرام شامل تھے۔ اس معاملے پر جنگِ جمل و جنگِ صفين کے
خونیں واقعات بھی پیش آئے۔

سمجھنے، سمجھانے اور ایمان بچانے کی بات؛۔

ہاں تو یہاں بات سمجھنے اور سمجھانے بلکہ ایمان بچانے کی یہ ہے کہ جس پس منظر میں ان

جنگوں کو حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اسی پس منظر میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک یہ جنگیں دوسرے گروہ کی خطاء اجتہادی کی وجہ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھنے کی وجہ سے ہوئیں لہذا وہ جنگ کرنے پر اترے۔ اور اس میں وہ معذور تھے۔ ابھی ہم اہل شیعہ کی معروف کتب قرب الانساناد اور نجح البلاغہ کے حوالوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف بیان کریں گے کہ یہ جنگیں باہمی عناد اور باہمی اختلاف دین کی وجہ سے نہ تھیں نہ ہی یہ جنگیں اس بنابر ہوئیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کافر سمجھتے تھے بلکہ حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے باوجود رثایوں کے حضرت امیر معاویہ کے ایمان اور اسلام پر ہمیشہ مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ ملاحظہ ہوں کتب شیعہ:-

(۱) قرب الانساناد جلد اول صفحہ ۲۵ مطبوعہ تہران جدید پر ہے:

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلَيْهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِ حَرَبِهِ إِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ كَنَا وَالِّكَنَا رَأَيْنَا إِنَّا عَلَى الْحَقِّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ -

ترجمہ:- امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے شرکاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے انہیں ازروئے کفر نہ مارا اور نہ ہی انہوں نے بوجہ کفر ہمارا مقابلہ کیا۔ لیکن بات یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو حق پر جانتے تھے۔

وضاحت:- یہ فرمان مبارک واضح کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باوجود اس

کے کہ حق پر تھے اور اپنی رائے میں اسی کو ہی حق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر ٹڑنے والا نہ فرمایا بلکہ انہیں ان کی اپنی رائے کے مطابق حق پر ہی گردانا لہذا جب کوئی شخص اپنے آپ کو حق پر جانتے ہوئے کوئی ایسا فعل یا ایسی کوئی بات کر ڈالتا ہے جو اس حق کو حاصل کرنے کی خاطر سرانجام دیتا ہے تو نیت کے خلوص کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ دونوں گروہ اپنے آپ کو بر سر حق تصور کرتے تھے کسی گروہ میں بھی ذاتی مفادات یا دنیاوی خواہش ہرگز شامل نہ تھی۔

حضور مجدد پاک قدس سرہ العزیز کا فرمان:-

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں:-

”جو اختلافات اور بھگڑے صحابہ کرام کے درمیان ہوئے ہیں وہ خواہشاتِ نفسانیہ کی بنا پر ہرگز نہ تھے کیونکہ صحابہ کی ذواتِ قدسیہ حضور پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتِ مقدسہ کی برکت سے نفسانی خواہشات اور خلاف شریعت باتوں سے پاک ہو چکی تھیں اور وہ بلا عذر شرعی کسی کو تنگ کرنے سے مبراتھے۔“ میں جانتا ہوں کہ بے شک اس معاملے میں جناب سیدنا علی المرتضی شیرخدا رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور آپ کے مخالف غلطی پر تھے۔ لیکن یہ خطاب اجتہادی تھی جو کہ فسق کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس معاملہ میں ان پر ملامت کی گنجائش بھی نہ ہے کیونکہ مجتہد کو خطاب پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔

(مکتوباتِ امام ربانی جلد اول مکتب ۵۲ ص ۸۶)

پھر فرماتے ہیں، "بعض اوقات صحابہ کرام اجتہادی طور پر حضور پر نو ﷺ کی رائے مبارکہ کے خلاف اپنی اجتہادی رائے کا اظہار کرتے تھے اسے کسی نے بھی برائیں سمجھا اور نہ ہی ان کی مخالفت اجتہادی کے رد میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی تو جناب علی الرضا رضی اللہ عنہ کی مخالفت اجتہادی کیسے کفر ہو گئی۔ لہذا جناب علی الرضا کے مقابلہ میں اجتہاد کرنے والوں پر لعن طعن کیونکہ جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سے جنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد جلیل القدر صحابہ کی ہے جن میں کچھ وہ بھی شامل ہیں۔ جن کی جنت کی بشارت خود حضور ﷺ اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمائے تھے۔

(مکتوبات امام ربانی جلد دوم مکتوب ۲۳۶ اور ۲۷)

نجع البلاغہ سے حوالہ "جگِ صفین" کے اختتام پر حضرت امیر معاویہ اور ان کے رفقاء کے ایمان اور تصدیق کے اعلان پر مبنی حکمر عام حضرت علی نے تحریری طور پر تمام ممالکِ اسلامیہ کو جاری کیا،"

اہل شیعہ میں نجع البلاغہ کا مقام بہت بلند ہے۔ جگِ صفین ختم ہوتی ہے۔ حالتِ امن قائم ہو گئی ہے تو اب باب العلم حضور مولا علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ایک عظیم فیصلہ تحریر فرماتے ہیں جس میں آپ کے باب العلم ہونے اور عالم بہ علمِ دُرُّتی ہونے کی بھی واضح دلیل موجود ہے۔ آپ کی نگاہ بصیرت آنے والے وقت

کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ نام نہاد محبان علی: اپنی جھوٹی محبت کی آڑ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید و تنقیص کا سوچیں گے اور اپنے خبیث باطنی کی بنابر وہ کفر و نفاق کے فتوے ان پر لگانے سے بھی نہ چونکیں گے۔ وہ جنگِ جمل و جنگِ صفين کے حوالے دے دے کر ممکن ہے لوگوں سے کہیں کہ اہل بیت سے جنگ کرنے والا گروہ صحابہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے اس حکم نامہ میں ان تمام بکواسات و خرافات کی بنیاد ہی ختم کر دی نیز اس حکم نامے میں حضرت امیر معاویہ سمیت مخالف گروہ صحابہ کی صحابیت اور ایمان پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور ان جنگوں کی بنیاد ہی ان کی خطاء اجتہادی پر کھی اور خطاء نفسانی پر نہیں۔ ملاحظہ ہو:۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَقْصُصُ فِيهِ مَا حَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ صَفَّيْنِ وَكَانَ بَدْءُهُ أَمْرُنَا أَنَا التَّقِينَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبِّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيًّا وَاحِدٌ، دَعَوْتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةً وَلَا نَسْتَرِي دُهُمْ فِي الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ وَالْتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَرِي دُونَنَا، الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفَنَا فِيهِ مِنْ دِمْ عُشَّمَانَ وَنَحْنُ رَفِيقُهُ بِرَأْءَهُ

ترجمہ:۔ اکثر شہروں کے معززین کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خط تحریر فرمایا۔ جس میں جنگِ صفين کے واقعہ کا بیان ہے۔ آپ نے لکھا کہ:۔ ہماری یہ ملاقات جو بصورتِ تصادم و لڑائی اہل شام کے ساتھ ہوئی۔ تو اس کی ابتداء کیا تھی؟ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے۔ رسول ایک ہے۔ دعوت

اسلام ایک ہے ہم خدا پر ایمان لائے اور اس کی تقدیق کرنے میں ان پر کسی
 فضیلت کے خواہاں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ہم پر کسی فضیلت و زیادتی کے طلبگار ہیں
 ۔ ہماری حالتیں بالکل یکساں ہیں۔ مگر وہ ابتدایہ ہوئی کہ خونِ عثمان رضی اللہ عنہ میں
 اختلاف پیدا ہو گیا حالانکہ ہم اس سے بالکل بری تھے؛ (نحو البلاغم خطبہ ص ۵۸ ۲۳۸)
 مطبوعہ بیروت؛ نیرنگِ فصاحت ترجمہ نحو البلاغم ص ۷۶۴ مطبوعہ یوسفی دہلی)
 آپ کا یہ فرمان تحریری ہے جو عالمِ اسلام کے کونے کونے میں پہنچا جو اور تو اور خود
 کتب شیعہ میں بھی آج تک محفوظ ہے۔ ہم اہل شیعہ کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے
 ساتھ ساتھ کچھ شیعیت زدہ نام نہادنی کہلانے والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ
 جاگتی آنکھوں سے آپ کا یہ فرمان پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ حضور مولا علی رضی
 اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مخالف گروہ صحابہ کہ جس میں
 تین سو جلیل القدر صحابہ مع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان
 کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کفر و اسلام اور حق اور باطل کی جنگ نہ تھی آپ اپنے
 مخالف لشکر کے جملہ صحابہ مع امیر معاویہ یہ سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خبردار!
 وہ کافر یا منافق نہ تھے بلکہ فرمایا کہ ان کا ایمان باللہ و تقدیق و دعوتِ اسلام
 اس معیار کی ہے کہ ہم نفسِ ایمان و تقدیق میں ان پر ہرگز زیادتی کے علمبردار
 نہیں۔ نفسِ ایمان و تقدیق میں حضرت علی المرضی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر
 معاویہ رضی اللہ عنہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیگر فضائل و مراتب اور
 اعمال صالحی کی رو سے حضور مولا علی رضی اللہ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں اور اس پر اجماع
 امت ہے۔ جس طرح فضیلتِ مولا علی رضی اللہ عنہ متفق علیہ ہے اسی طرح

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جگِ جمل و صفین میں شامل حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف طرف کے کل صحابہ کا، صحابی؛ ہونا بھی متفق علیہ امر ہے اور یہی نکتہ قابل توجہ ہے کہ جگِ جمل و صفین کے خونیں و اقدامات کے بعد حضور مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فرمان جاری کرنے کو ترجیح دی کہ جس کی بدولت ان جنگوں میں شامل دونوں اطراف کے صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے اور جس سے کوئی بھی شخص ان صحابہ کے شرف صحابیت کے انکار کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو سکے۔ حضور مولا علی کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خط میں اپنے ایمان اور امیر معاویہ اور ان کے رفقاء کے ایمان کو برابر قرار دے رہے ہیں اور ان کی تصدیق وایمان باللہ وایمان بالرسول کو اپنی تصدیق وایمان باللہ اور وایمان بالرسول سے فروٹر اور کم درجہ میں نہیں سمجھتے جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور آپ کا شرف صحابیت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بیعت سے (کہ جس کا ابھی ہم کتب شیعہ سے باحوالہ ذکر کریں گے) اور تادم آخر میں سال اس بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ پر قائم رہنے سے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔

صحابہ کو برا بھلا کہنے والا خود اہل شیعہ کے نزدیک کافر ہے آج کون نہیں جانتا کہ ہر انسان کا بنیادی حق اس کی عزت و آبرو کا احترام ہے تو کیا شرف صحابیت کا ہی کچھ ادب و احترام نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں الہست تو کجا! خود شیعوں نے بھی یہ حق اس انداز میں تسلیم کیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو سب

کرنے والا یعنی برا بھلا کہنے والا اور گالی دینے والا کافر ہے۔

ملاحظہ ہو جامع الاخبار اہل شیعہ:-

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَبَبَ قَتْلَهُ وَمَنْ سَبَبَ صَحَابَيْ فَقَدْ كَفَرَ
وَفِي خَبْرٍ آخِرٍ مَنْ سَبَبَ صَحَابَيْ فَأَجْلَدَهُ -

(جامع الاخبار ص ۱۸۳، مطبوعہ نجف اشرف)

ترجمہ:- حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے گالی دی اسے قتل کرو اور جس نے میرے صحابی کو گالی دی وہ کافر ہو گیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اسے کوڑے لگاؤ۔ (جامع الاخبار ص ۱۸۳)

موجودہ دور کے شیعوں کو اپنی کتب میں درج اپنے نبی کا یہ فرمان اپنے ہر خاص و عام کو ضرور سنانا چاہئے یا اللہ قرآن و سنت میں موجود صحابہ کی عزت کی توفیق عطا فرماء!

مقتولین جمل و صفين کے بارے میں حضرت علی کا آخری

عمل ہمیشہ کے لئے، فتنہ انکار صحابیت؛ کوفن کر دیتا ہے

درج بالاقرب الانساد جلد اول ص ۳۵۵ اور فتح البلاغہ خطبہ ۵۸ کے حوالوں سے
نام نہاد محبان علیؑ اور خود سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی سوچ اور عمل میں واضح فرق
بلکہ واضح تضاد نظر آتا ہے کہ آپ تو حضرت امیر معاویہ سمیت دیگر کل صحابہ کے

متعلق، فتنہ انکار صحابیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر رہے ہیں اور آج کے
نام نہاد مجان علی جگ جمل و صفين کے واقعات دہرا دہرا کر، فتنہ انکار صحابیت
کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خود کتب شیعہ سے حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ
کا آخری عمل مقتولین جمل و صفين کے بارے میں بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہے اور
ہدایت کا سبب ہے۔ کامل ابن اثیر جلد ۲۵۳ مطبوعہ بیروت جدید میں ہے:-
 وَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَصَلَّى عَلَى قُرْيَشٍ مِّنْ هُؤُلَاءِ
 وَهُؤُلَاءِ تَرْجِمَة:- اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصری اور کوفی یعنی دونوں
طرف کے مقتولین کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ اس کے ساتھ دونوں طرف کے
قریش مقتولین کی بھی نمازِ جنازہ پڑھائی؛

خدارا بتائیں! اب بھی کوئی شک رہا ان صحابہ کے جنتی ہونے میں اور ان کے
شرف صحابیت میں۔ جنازہ میں دعائے مغفرت ہوتی ہے جو صرف کسی مسلمان کے
لئے ہی جائز ہے۔ کیا مولا علی کی دعائے مغفرت کسی غیر مومن کیلئے ہو سکتی ہے؟
 ہماری کتب اہلسنت و جماعت میں ثقہ راویوں سے حضور مولا علی رضی اللہ عنہ کا
یہ فرمان نقل ہوا ہے قَالَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّا مَنْ يَعْلَمُ بَأَيِّ فِي
 الْجَنَّةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ وُتَّقُوا تَرْجِمَة:- حضرت علی المرضی رضی اللہ عنہ
نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور امیر معاویہ کے درمیان لڑائی میں قال کرنے

والے اور

شہید ہونے والے سب جنتی ہیں اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا گیا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ جز ۱۵ ص ۳۰۳، مجمع الزوائد جز ۹ ص ۳۵۷)

پس شرفِ صحابیت و جمل و صفين کے مقتولین کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا ایمان افروز اور حتمی فیصلہ مانیں۔

حضور حضرت سیدنا و مرشدنا حضور مجدد الف ثانی قطبِ رسمۃ العزیز ترجمان حق ہیں۔ کیا کوئی ہے ایسا مجدد؟ کہ جس کے اصل نام کی وجہے زمانہ اور مورخ فخر سے انہیں ان کی شانِ مجددیت اور وہ بھی، الف ثانی؛ یعنی دو ہزار سال کے عرصہ پر محیطِ مجددیت کے لقب سے پکارنے میں نہ صرف فخر محسوس کریں۔ بلکہ مجدد الف ثانی ہونا ہی ان کی پیچان بن کر رہ جائے۔ آئیں! آپ کا ایمان افروز اور حتمی فیصلہ مان لیں؛ آپ ارشاد فرماتے ہیں؛

”اے بھائی! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلہ کا یہ معاملہ نہیں بلکہ آدھے کے قریب صحابہ کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ لہذا اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں کو فاسق و کافر کہا جائے تو دین کے بڑے حصے سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ دین ان حضرات کی تبلیغی کوششوں

سے ہی ہم تک پہنچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقہ سند سے جواحدا بیث
مردی ہیں ان میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کے
حق میں ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں لگی ہے اور آقا مولانا ﷺ کی یہ دعا مقبول
ہے؛ پھر فرمایا

،،اے بھائی! قصاص عثمان کے مطالبے کے لئے حضرت طلحہ اور حضرت زیر
رضی اللہ عنہما جو عشرہ مبشرہ اور جنتی ہیں وہ پہلے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور ام
المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے بھی انکے ساتھ اس بات میں موافقت کی۔
اس طرح جنگِ جمل ہوئی کہ جس میں تیرہ ہزار مسلمان شہید ہوئے اور
حضرات طلحہ و زیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر
امیر معاویہ شام کی طرف سے آئے اور ان لوگوں کے ساتھ مل گئے جو قصاص
عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جس کے نتیجے میں جنگِ صفیہ ہوئی۔

اے بھائی! ایسے موضوع اور مقام میں محفوظ ترین طریقہ یہی ہے کہ
حضرات صحابہ کرام کے باہم اختلافات و جگڑوں کے بارے میں چپ رہا جائے
اور ان کے نماز عات کے ذکر کرنے سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ حضور ﷺ
کا ارشادِ گرامی ہے۔ رَأَيْتَ كُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِيْ وَخَبْرَ دَارِ! صحابہ کرام کے
باہم جگڑوں میں پڑنے سے بچو۔ حضور پر نو ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے اِذَا ذَكَرَ
أَصْحَابِيْ فَامْسِكُوْ اَتْرَجْهُ فرمایا جب میرے صحابہ کا معاملہ آئے تو خاموشی

اختیار کرو۔ نیز آپ ﷺ کا ہی ارشادِ گرامی ہے کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہیں تم اپنے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ امام شافعی نے کہا اور یہ قول حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے فرمایا تُكَّ دِمَاءَ وَهَرَّ اللَّهُ عَنْهَا أَيَّدِينَا فَلَنْطَهِرُ وَعَنْهَا أَسْنَتَأَ ترجمہ:- فرمایا کہ اس خون سے جو حجک جمل و صفين میں بہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا لیا ہے میں اس سے اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھنا چاہئے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی خطاب کو بھی زبان پر نہ لانا چاہئے اور ان کا تذکرہ بھر خیر ہر گز نہ کرنا چاہئے (مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم مکتب نمبر ۲۵)

جب ہم اسلاف کے یہ اقوال پڑھتے ہیں اور دوسری طرف مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھتے ہیں تو حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ درحقیقت مودودی غیر ملکی اقتدار کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کا پروردہ ہے کہ جس نے ہماری نسلوں سے ادب ختم کر کے رکھ دیا۔ جس سے نئی نسل کے سرٹوپیوں اور پگڑیوں سے محروم ہو گئے۔ زبان سے ادب جاتا رہا اور نگاہوں سے حیا۔ ایسے موخین کی بدولت ہی ہم اپنے ماضی کے احترام سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کا تعلق کسی آستانہ روحانیت سے نہ تھا۔ تصنیف تو اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اسلام پر اعتناد کو بحال کرے لیکن اپنے ماحول میں خود دیکھیں کہ مودودی کی اس تصنیف سے کتنے لوگ اپنے مذہب و ملت سے برگشته ہو کر صحابہ کرام کے احترام سے محروم ہو گئے؟ اس

مذکورہ تصنیف سے وہ غیر مفید اور ضرر رہاں علم برآمد ہوا کہ جس سے امام الانبیاء والرسلین ﷺ پناہ مانگنے کا ان الفاظ میں حکم فرمائے ہیں، فرمایا **تَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ** (ابن ماجہ) ترجمہ:- اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے:- یا اللہ! تو گواہ رہ! ہم تیرے محظوظ ﷺ کے حکم سے ایسی جملہ کتب سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے محظوظ عربی ﷺ کے لاذلے مجد والف ثانی کے فیصلے پر بلیک کہتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں روزِ قیامت اپنے انہی پیاروں کی سگلت نصیب فرما کہ جن کی بیعت کر کے احترام کا حق حسین کریمین رضی اللہ عنہما نے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین!

کتب شیعہ سے حسین کریمین رضی اللہ عنہما کی بیعت

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؛

عزت و آبرو کا احترام ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ کسی کی آبرو پر دست درازی جائز نہیں۔ پھر یہ مذہب، اخلاق اور انسانیت کے قانون کی کونسی حق ہے کہ اللہ جن پر راضی ہونے کا اعلان کرے۔ سید عالم ﷺ کی مقدس صحبت جنہیں نصیب ہوئی ہو اور جن سے سورۃ الحدیڈ میں اللہ کریم نے فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے تمام صحابہ کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہو اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر ہم نواسحابہ کہ جن کے ایمان و

صحابت پر درج بالا قرب الاسناد اور نجح البلاغم کے حوالوں میں حضرت مولانا
رضی اللہ عنہ بھی مہر تقدیق شبت کردیں اور پھر یہ کہ جن کی بیعت حسین
کریمین نے کی ہو اور ۳۰ تا ۶۰ ہجری میں سال کا طویل عرصہ اس پر قائم
رہے ہوں۔ اہل شیعہ کی معروف کتب

(۱) رجال کشی ص ۱۰۲ مطبوعہ کربلا، (۲) کشف الغمہ فی معرفۃ الائمه جلد
اول ص ۷۵ مطبوعہ تبریز تذکرہ امام حسن (۳) احتجاج طبری
جلد دوم ص ۹ مطبوعہ نجف اشرف جدید (۴) جلاء العیون جلد اول ص
۳۹۵، ۳۰۳ مطبوعہ تہران طبع جدید (۵) الاخبار الطوال طبع یروت
ص ۲۲۰ (۶) مقتل ابی مخنف طبع نجف اشرف ص ۶؛ پر جملہ کتب میں
واشگاف الفاظ میں حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا ثابت ہے۔ پھر اسے مشیت الہی کہیے
کہ حسین کریمین کی بیعت حضرت معاویہ کا عرصہ اتنا طویل ہے کہ کوئی عقل کا
اندھا بھی اس بیعت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ۲۰ ہجری کہ جب حسین کریمین
نے جناب امیر معاویہ کی بیعت کی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی
خلافت ان کے سپرد کر کے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائی تو
اس وقت سے لے کر ۲۲ ربیع الاول تک، جو حضرت امیر معاویہ کی
وفات کا دن ہے، اس دن تک تاریخ عالم میں ڈھونڈے سے بھی کہیں کسی

کو معرکہ کر بلانظر نہ آئے گا۔ اہل شیعہ کی کتاب الامامة والسياسة ص ۱۶۲ مطبوعہ مصطبع قدیم میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرتے ہوئے اپنے لشکر والوں کو یہ بھی فرمایا کہ مجھے حضور مولا علیؑ نے وصیت فرمادی تھی کہ خلافت حضرت امیر معاویہ ضرور قائم ہوگی یہ اللہ کی اہل تقدیر ہے:

قارئین! بیس سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اگر ۱۰ محرم ۶۱ ہجری کا دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا ایک دن ہے تو اس سے متصل پہلے بیس سال بھی آپ کی ہی مبارک زندگی کا طویل عرصہ ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک دن کو یاد رکھا جائے اور بیس سالوں کو بھلا دیا جائے؟ یا ۱۰ محرم ۶۱ ہجری کا دن تو امام حسین کی شجاعت و بہادری کا دن مان لیا جائے اور بیس سال بیعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طویل عرصہ کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ نہیں! انہوں نے تو ڈر کر تقیہ کرتے ہوئے بیعت کیے رکھی۔ یہ عجیب منطق ہے اور وہ بھی سردار ان جنت کے بارے میں۔ کیا یہ کہتے ہوئے تمہیں ڈر اور خوفِ خدا نہیں آتا کہ حسین کریمین رضی اللہ عنہمانے ڈر کر بیعت امیر معاویہ کی تھی؟ ایک عام فہم آدمی بھی آپ سے سوال کرے گا کہ اس وقت ڈر کیا تھا؟ کیونکہ بیعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت تولاکھوں وفا دار غلام بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسنؑ پانچویں خلیفہ راشد کے طور پر تسلیم کیے

جاتے تھے۔ ایک اشارے پر کئی گردیں کثانے پر تیار تھے۔ ماننا پڑے گا کہ حسین کریمین رضی اللہ عنہما نے برضاء و غبت بیعت کی تھی۔ اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کردی تھی۔ اس ضمن میں حضور پر نور نبی کریم ﷺ کا فرمان مبارک بھی ہر وقت ذہن میں رہنا چاہئے جو سنی شیعہ کتب دونوں میں فضائل امام حسن میں موجود اور ثابت ہے۔ اہل شیعہ اپنی کتاب کشف الغمہ دیکھیں۔ پورا حوالہ عرض ہے،

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ
صَعِدَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ فَصَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ رَبِّنِي هَذَا سَيِّدُ وَرَبِّنِي اللَّهُ
عَلَهُ أَنْ يَصْلِحَّ لِي بَيْنَ فِتْنَتِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمُتَيْنِ (کشف الغمہ ج
اول ص ۵۲۶ مطبوعہ تبریز)

ترجمہ۔ ابی بکرہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کے خطبه ارشاد فرمانے کے دوران یا کیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھ گئے تو آپ ﷺ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا؛

فَرَمَانِ رِسَالَتِ مَا بَعْدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں یہ الفاظ کہ؛ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا؛ ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ والے گروہ کی بھی اور حضرت امیر معاویہ والے گروہ کے ایمان اور

مسلمان ہونے کی خود زبانِ نبوت نے تصدیق فرمادی ہے اور صلح اور بیعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کر کے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے اس کی تائید مزید فرمادی ہے۔ اب ہے کسی کو جرات؟ کہ اللہ کے محبوں جسے مومن فرمائیں! وہ اسے دائرۃِ ایمان سے نکال سکے؟ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ زبانِ نبوت کا انکار کر کے ایسا بدبخت خود ہی مومن نہیں رہا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جس ہستی کی بیعت فرمائیں اور تادم آخر میں سال تک اس بیعت پر قائم رہے ہوں! کیا یہ دونوں ہستیاں غیر مومن کی بیعت کر سکتی تھیں؟ مناسب ہوگا کہ اس مختصر مگر جامع مضمون میں آپ بھی کتب شیعہ سے لفظ بیعت؛ ملاحظہ فرمائیں تاکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے

(۱) مروج الذہب للمسعودی جلد سوم ص ۷ مطبوعہ بیروت میں واضح الفاظ ہیں الحسن بن علی قدم بایع لمعاویة ترجمہ: تحقیق حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے۔

(۲) رجال کشی ص ۱۰۲ مطبوعہ کربلا ذکر قیس بن سعد میں واشگاف الفاظ میں بیعت کرنے کا منظر بیان ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے جملہ معتقدین کو لے کر شام پہنچے۔ ان کے شایان شان دربار لگایا گیا وَ أَعْدَّ لَهُمُ الْخَطَبَاءَ وَ قَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَبَأَيْعُ فَقَامَ فَبَأَيْعَ

ثُمَّ قَالَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُمْ فَبَأْيَعْ فَقَامَ فَبَأْيَعْ سُرْجَمَهٗ۔ ان کے لئے خطیب مقرر کئے گئے پھر کہا اے حسن! اٹھئے اور بیعت کیجئے وہ اٹھے اور بیعت کی پھر امام حسین کو کہا آپ اٹھئے! اور بیعت کیجئے تو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی

(۳) احتجاج طبری جلد دوم ص ۹۔ مطبوعہ نجف اشرف جدید میں علامہ طبری نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کچھ نہادِ محییں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا دَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَلَامَهُمْ وَعَوْدَهُمْ عَلَى بَيْعِهِ تَرْجِمَهٗ۔ تو کچھ لوگوں نے آکر ان کے بیعت کر لینے پر امام حسنؑ کو ملامت کی؛ ان الفاظ سے یہ حقیقت بہر حال طشت از بام ہو جاتی ہے کہ حضرات حسین کریمین کا بیعت امیر معاویہ کرنا شیعہ آج تک نہیں جھٹلا سکے۔

(۴) اسی طرح جلاء العیون جلد اول ص ۳۰۳ مطبوعہ تہران جدید تذکرہ امام حسن رضی اللہ عنہ میں ہے، بعض ملامت کر دند اورا بے بیعت معاویہ، افسوس! کہ فارسی نسخہ جلاء العیون میں صراحةً لفظ بیعت موجود ہے لیکن شیعہ مترجم سید عبدالحسین شیعی نے اردو مترجم جلاء العیون میں جلد اول ص ۳۱۸ پر اس کا ترجمہ صلح کیا ہے۔

(۵) اہل شیعہ کی مشہور ترین کتاب مقتل ابی مخلف میں ہے کہ ایک سلیمان نامی شخص نے آکر کہا یا بن بنت رسول اللہ ﷺ اینا متعجبون میں

بِعَثَتْكَ لِمُعاوِيَةَ تَرْجِمَه:- اے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے! ہم آپ کے بیعتِ معاویہ کرنے پر بہت متوجہ ہوئے ہیں (مقلابی تخفیف ص ۲، ۳ مطبوعہ مکتبہ حیدریہ نجف اشرف ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۶ء)

(۶) کشف الغمہ فی معرفۃ الائمه جلد اول ص ۱۷۵ طبع تبریز میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کافر مان گرامی ہے قدس سا بایعته ترجمہ:- ”تحقیق میں ان کی بیعت کر چکا ہوں۔“

قارئین حضرات! حوالہ ۳ تا ۶ تا بھی خود کتب اہل شیعہ سے ہیں۔ ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا امام حسنؑ کو بیعتِ معاویہ کرنے پر ملامت کرنا اور اس پر راضی نہ ہونا خود امام حسنؑ سے بغاوت نہیں؟ یقیناً ہے جس پر آج تک شیعہ قائم ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہیں اور ان کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ پھر کیوں اہل شیعہ بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج تک صدقِ دل سے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں؟ میں ہر جگہ امام حسن کو دعوتِ فکر دیتا ہوں کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی جو تمام کتب شیعہ سے باحوالہ یہاں درج کر دی گئی ہے۔ آفرین ہے۔ شیر خدا کے شیروں پر۔ کہ جن کے گھرانے کے پاک ہونے کا اللہ اعلان کرے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم پاک ہیں۔ ہم حق ہیں۔ ہم صرف پاک اور اہل حق لوگوں کی بیعت ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی

اللہ عنہ کے پاک ہاتھوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی
 ذوالنورین رضی اللہ عنہم جیسے پاک اور اہل حق ہستیوں کے پاک ہاتھوں پر
 بیعت کی۔ فرمان نبی ﷺ ہے حق علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ مولا علی رضی اللہ
 عنہ نے جتنی بیعت کی ان کو حق جان کر ان کی بیعت کی لہذا جو بیعت علی کے
 باوجود خلفاء راشدین کا منکر ہے وہ حضور مولا علیؑ کا منکر ہے۔ اور جو باوجود
 حسین کریمین کے بیعت کرنے کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا منکر ہے وہ
 مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادگان حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا منکر ہے۔ اہل
 شیعہ اگر کہیں کہ حسین کریمین نے تلقیہ کرتے ہوئے بیعت امیر معاویہ کی تھی۔
 انشاء اللہ ہم ابھی اس کا بھی تحریک کریں گے لیکن سر درست گذارش ہے کہ
 حسین کریمین رضی اللہ عنہما بیس سال اس بیعت پر قائم رہے۔ شیعوں نے لاکھ
 جتن کئے لیکن مولا علی کے بیٹے شجاع تھے۔ کسی نام نہاد محبت کی پرواہ نہیں کی۔
 کسی سازش اور جال میں نہیں پہنچے۔ بلکہ میں اخبار الطوال سے اب وہ حوالہ پیش
 کرتا ہوں کہ جس میں بیعت حسینؑ بھی ثابت ہے اور پاس رہ کرنہ مانے والے
 نام نہاد محبین کو شجاعت بھرا جواب بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا:-

(۷) إِنَّاْ قَدْ بَايَعْنَا وَعَاهَدْنَا وَلَاَ سَيْلَ الِّيْ نَقِصَ بَيْعَتِنَا

ترجمہ:- ہم تحقیق بیعت کر چکے لہذا ہمارے اس بیعت کے توڑنے کا کوئی

راستہ اور صورت ہی نہیں ہے۔

(الا خبار الطوال طبع بیروت ص ۲۲۰ تذکرہ زیارت)

(۸) اب اہل شیعہ کے مجتہد اول ابوحنفہ کا حوالہ سنیں کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں کہ جس سے آپ کا یہ عزم ظاہر ہوتا ہے کہ میں کٹ تو لا ہوں لیکن آپ کی بیعت نہیں توڑوں گا ملاحظہ ہو، آپ فرماتے ہیں؛ - وَبَعْدَ اللَّهِ أَنْ
انقضَ عَهْدًا عَهْدَهُ إِلَيْكَ قَأْخِي الْحَسَنِ ترجمہ؛ - فرمائیں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کیا گیا وہ عہد توڑوں جو میرے بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے آپ سے کیا تھا۔

(مقتل ابی حنفہ صفحہ ۶ طبع نجف اشرف، دروغہ)

قارئین حضرات! ہمارے نزدیک حسین کریمین رضی اللہ عنہما بیس سال تک یہ بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول، صاحب ایمان، جنتی اور آپ کی حکومت و سلطنت حلق ہونے کو ثابت کرتی ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اب کچھ لاثادینا لیکن یزید پلید اور لعین کی ایک دن کے لئے بھی بیعت نہ کرنا فوڈ یزید کو بے ایمان، جہنمی، بدکردار اور اس کے باطل ہونے کو ثابت کرتی ہے یہ کون سی بات ہے جو اہل شیعہ کو آج تک سمجھنہیں آسکی! ہم کہتے ہیں مقلوبی حنف

ص ۶ ملاحظہ کریں۔ حضرات حسین رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں
 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال دس لاکھ دینار مع
 تھائے و انعامات آتے رہے اور آپ قبول کرتے رہے۔ کیا کہیں گے یہاں؟
 حسین کریمین رضی اللہ عنہما کہ آپ پڑھیں جن کے حق میں اتری ہو وہ دس لاکھ
 تو ہر سال کجا۔ باطل اور باغی حکومت کی طرف سے تو ایک دینار اور ایک
 لقمہ تک ہدیہ قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے پاک شکم میں حرام کا ایک
 لقمہ تک جاہی سکتا ہے اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھے گی تو اندازہ کریں
 حسین کریمین کے میں سال تک لنگر شریف کے بارے میں کیا سوچیں گے۔
 اللہ کریم اہل بیت پاک کے بارے میں بربی سوچ سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

حسین کریمین رضی اللہ عنہما پر تقبیہ کرتے ہوئے بیعت
 معاویہ کرنے کے الزام کا مبنی بر حق تجزیہ
 محض خوف رکھنے والوں کے لئے اور اپنی آخرت کو بچانے والوں کے
 لئے ابھی ہم پارہ ۲۷ رکوع ۷ اسورہ الحدید سے کل صحابہ کرام کے جنتی ہونے
 کے متعلق آخری بات کے طور پر خود اللہ عز و جل کا فیصلہ درج کریں گے لیکن
 اس سے پہلے حسین کریمین سردار ان جنت رضی اللہ عنہما کے متعلق اس بے
 ادبی کی انتہادیکھیں کہ میں سال تک نعوذ بالله انہوں نے تقبیہ کرتے ہوئے

بیعتِ امیر معاویہ کے رکھی۔ حضور مولانا علی رضی اللہ عنہ کے شیروں کے متعلق یہ
خیال کیوں اور کسے آیا؟ ظاہر ہے اہل سنت و جماعت تو نہیں یہ کہتے اب شیعہ
ہوں یا تفضیلی کہلانے والے سُنی نما شیعہ ہوں۔ جو بھی، حضرات حسین کریمین
رضی اللہ عنہما کے متعلق ایسا خیال کریں اور جب بھی کریں۔ اسی وقت بے ایمانی
ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیونکہ یہ سیدھی سیدھی سردار ان جنت کی گستاخی ہے۔
چلیں یہ سطور پڑھتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی
معزز اور جرات مند اور کردار کا کھرا! آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہو۔ اسے صرف
اتنا کہیں کہ بھائی صاحب! تم اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ تمہارا
ظاہر و باطن ایک نہیں۔ تم تو بیس سال تک باطل اور طاغوتی قوتوں کے سامنے
دبے رہے اور فلاں کام میں اپنا اندر چھپائے رکھا تو اگر وہ معزز آدمی جرات
مند ہے۔ اور کردار کا کھرا ہے تو ضرور وہ آپ سے کہے گا کہ اس کا مطلب
ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ کہہ کر تم نے مجھے منافق کہا ہے۔ بیس
سال تک اندر چھپائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے ابن الوقت سمجھا۔
ڈرپوک سمجھا۔ مفاد پرست سمجھا۔ باطل سے دب جانے والا سمجھا۔ حلال خون ہوا تو
طیش میں آئے بغیر نہیں رہے گا۔ ایمان کے تین درجوں میں سے جس درجے پر
بھی وہ ہوا یا تو ہاتھ سے تجھے جواب دے گا یا زبان سے تجھے خاموش کرے گا۔

یہ دونوں نہیں تو تیرا پہلو فطری ہے کہ ساری زندگی دل میں تجھے ضرور برا سمجھے گا۔

بلا تمثیل و مثال ذرا سوچیں! بالکل یہی کچھ حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق تم کہہ رہے ہو جب کہتے ہو کہ انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے بیعتِ امیر معاویہ کی تھی۔ میں یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہوں اور اپنی طرف سے لفظِ تقیہ؛ کے بارے میں صرف خوفِ خدادلانے کے لئے اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس؛ تقیہ؛ کو آپ جو بھی معنی پہنانا لیں اس سے منافق، بزدیلی، ابنِ الوقت ہونے، ڈر پوک ہونے اور کردار کے لحاظ سے مصلحتِ وقت کا شکار ہونے کی نو ضرور آئے گی۔ بلکہ مزید سادہ الفاظ میں ہماری عام بولی میں ایسے ہی آدمی کو کردار کے لحاظ سے دونبڑ ہونے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تقیہ تو نسب پر بھی بد نمایاں ہے کہ اس سے اگلی نسلوں کو طعنے سننے پڑتے ہیں۔ تقیہ خاندانی وقار کے بھی منافی ہے اور ذاتی نجابت و شرافت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس پر آپ لفظِ تقیہ؛ لا گو کریں گے درحقیقت اس سے آپ اس کے ذاتی فضائل کی مکمل نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقیہ کی بھی انک تصویر ہے جس کو تم سردار ان جنت پر چسپاں کرنے پر بند ہو۔ یہ آپ سے محبت ہے یا آپ کی گستاخی؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اے اللہ! تو علیٰ کُلِّ شَیْ قَدِيرٌ ہے ہمارے ماحول کو اس سوچ سے پاک فرمادے یا اللہ! ہمیں سردار ان جنت

پر ایسا الزام سننے سے بھی محفوظ فرم آئیں ثم آئیں!

آئیں! صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کریم کا فیصلہ مان

لیں اور آخرت بر بادنہ کریں

ہم نے اس مختصر مضمون میں بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کے لئے ہر پہلو سے اہتمام عظمت کیا۔ جبکہ مخلوق میں دوسروں کے بارے میں آپ کے فیصلے نہ مانے والوں کے لئے اللہ اپنی قسم اٹھا کر ان کے مومن ہونے کا انکار فرماتا ہے پھر ان کا ایمان کیسا؟ کہ جو ان فیصلوں کو بھی نہیں مانتے جو سید عالم ﷺ نے خود اپنی ذات با برکات کے بارے میں کئے۔ پس آپ کی بیویوں کو، آپ کے سرال کو، آپ کے دامادوں کو، آپ کی اولاد پاک کو، اہلبیت پاک کو، پختگان پاک کو اور شہزادگان سردار ان جنت کو (جو سب صحابی ہیں) ان سب کو ماننا پڑے گا۔ انہی میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ کے سامنے بھی ہیں، کاتب و حجی بھی ہیں اور جگ جمل و صفین کے بعد قرب الاسناد اور نجح البلاغہ کے حوالوں سے ہے فرمان حضور مولانا علی رضی اللہ عنہ آپ صحابی بھی ہیں اور حسین بن کریم بن رضی اللہ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستِ حق پرست پر جوبیعت کی اس نے تو آپ کے صحابی رسول ہونے صاحب ایمان ہونے، حق پر ہونے اور جنتی ہونے پر مہر لگا دی۔ کل صحابہ جنتی ہیں اور آپ بھی

جنتی ہیں اگر اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کریم کا فیصلہ ہی مان لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ قَدِمَ مِنْ قَبْلِ الْفُتح وَقَاتَلَ طَوْلَةً وَلِكَفَأَ
أَعْظَمْ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ قَاتَلُوا طَوْلَةً وَكَلَا وَعَدَ اللَّهَ
الْحُسْنَى طَوْلَةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ☆ (پ ۲۷۱ سورہ الحدید)

ترجمہ، - تم میں سے جس نے فتح کہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ اور جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کے جنہوں نے بعد فتح خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں اتفاق اور جہاد کرنے والوں سے پہلوں کے درجے زیادہ ہیں اور اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے:

قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اگرچہ لفظ جنت موجود نہیں بلکہ **الْحُسْنَى** ہے لیکن **الْحُسْنَى** سے مراد جنت اور اس کا ثواب ہے۔ اس پر تمام شیعہ سنی تفاسیر متفق ہیں۔ اہل شیعہ کے تفسیر کے امام صاحب تفسیر مجتبی البیان نے جلد پنجم ص ۲۳۲ پر **الْحُسْنَى** کی تفسیر ای **الْجَنَّةَ وَالثَّوَابَ فِيهَا** سے ہی کی ہے۔ دوسرے شیعہ مفسر فتح اللہ کاشانی نے تفسیر منہاج الصادقین جلد نہم ص ۱۷۱ پر یہی تفسیر کی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ اس مضمون میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ

آپ صحابی ہیں لہذا جنتی ہیں۔ آپ کا صحابی ہونا اور جگِ جمل و صفين کے بعد وقت وصال تک صحابی ہونا حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایک متفہ علیہ امر ہے تو اب آپ کے صحابی اور جنتی ہونے سے انکار کرنے والے میں جیسا کہ اوپر حوالہ گذرا ایسا شخص اہل شیعہ کی معتبر ترین کتاب جامع الاخبار ص ۱۲۵ فصل ۱۸۳ مطبوعہ نجف اشرف کے مطابق یا تو کافر ہے پھر کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے۔ یا اللہ کریم جل جلالہ! اس مضمون کو ہر پڑھ والے کے لئے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم کے صد اور سیلہ جلیلہ سے بدایت کا ذریعہ بنا آمین! ثم آمین! وَمَا عَلِيَّتِنَا إِلَّا بُلْلَةً
المُبِين ☆ ﴿ بِحُكْمِ قَبْلِهِ عَالَمٌ حَضَرَتْ صَاحِبٌ ﴾ ☆
 از قلم:-

محمد رفیق کیلانی گولڈ میڈلست

(ایم اے عربی، اسلامیات)

خادم حضور آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف
 (نوٹ:- تیرے ایڈیشن میں ضمناً مسئلہ بنات رسول ﷺ بحکم حضور قبلہ عالم اضافہ گیا تھا۔ اس چوتھے ایڈیشن میں بنات رسول کے سلسلہ میں ہی دوپیا اگراف کا اضافہ گیا ہے۔ کتاب کی طباعت کے جملہ اخراجات قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ حضرت کیلیانو والہ شریف نے برداشت کئے ہیں اور فی سبیل اللہ تقسیم عام کی ہے۔ کیلانی)

حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں اہل بیت رسول ﷺ کا فصلہ

مع

بِ فَرْمَانِ قُرْآنٍ مُّحَمَّدٌ نَّبِيٌّ كَيْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْ حَضَرَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ جَعْفُرُ صَادِقٌ
۳۳ مُعْتَبِرِ تِرْيَنْ چارِ بَنَاتِ رَسُولٍ كَا شَبُوتٍ

حکمٌ تصنیف و تقدیمٌ

حضرت پیر سید محمد بن اقبال علیہ السلام مختاری صحابہ
سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیان نوالہ شریف



از قتل

خادم حضور محمد فرنیق کیلانی گولڈ میڈل سٹ، ایم اے
(عربی، اسلامیات)

ناشر: دار التبلیغ

آستانہ عالیہ حضرت کیلیان نوالہ شریف راگھو فراز